



رمضان المبارک فضائل احکام

تالیف

مولانا علیہ الد محمدی صاحب مبارک پوری مدظلہ

تحقیق و تعلیق

حافظ ندیم ظہیر

www.KitaboSunnat.com

مکتبہ اسلامیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

معزز قارئین توجہ فرمائیں!

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب

عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹوکاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات نشر و اشاعت کی مکمل

اجازت ہے۔

☆ تنبیہ ☆

کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں﴾

نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com

www.KitaboSunnat.com

رمضان المبارک کے فضائل و احکام

تالیف

مولانا علیہ اللہ عزتہ مبارک فیہ

تحقیق و تملیق

حافظ ندیم ظہیر

مکملہ اسلامیہ

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

کتاب رمضان المبارک فضائل و احکام

تالیف مولانا عبدالمجید المدحتی صاحب مدظلہ العالی

تحقیق و تعلیق حافظ ندیم ظہیر

ناشر مجتہد ذریعہ

اشاعت 2014ء



مکتبہ اسلامیہ

بالتقابل رحمان مارکیٹ غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور۔ پاکستان فون: 37232369 - 042-37244973
بیسمنٹ سمت بینک بالتقابل ٹیل پٹرول پمپ کوٹوالی روڈ، فیصل آباد۔ پاکستان فون: 2641204 - 041-2631204

E mail: maktabaislamiapk@gmail.com, www.facebook.com/maktabaislamiapk

فہرست

- 5 تقدیم *
 15 رمضان المبارک کے فضائل و احکام *
 18 مسینے کی ابتدا اور انتہا میں رویت ہلال کا اعتبار *
 18 رویت ہلال کی شہادت *
 20 دوسرے مقام کی رویت کی خبر کا حکم *
 21 تار، نیلی فون، خط اور ریڈیو کے ذریعے سے چاند کی خبر کا حکم *
 23 مشکوک دن میں روزے کا حکم *
 24 روزے کی نیت کا حکم *
 25 سحری کھانے کی فضیلت *
 26 سحری دیر سے کر کے کھانے کی مسنونیت اور فضیلت *
 27 وقت ہوتے ہی فوراً روزہ افطار کر دینا چاہیے *
 28 روزہ افطار کرنے کی دعا *
 29 روزہ کس چیز سے افطار کرنا چاہیے *
 29 روزہ افطار کرانے کا ثواب *
 31 روزے میں کون سے امور جائز ہیں اور کن امور سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ *
 32 روزہ جن امور سے ٹوٹ جاتا ہے *
 33 بیمار، مسافر، حاملہ، مرضہ کے لیے شرعی رخصت *
 34 میت کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا *
 36 بوڑھے مرد اور عورت کے لیے شرعی رخصت *
 37 روزے کا ثمرہ اور مقصد *
 39 ماہ رمضان میں نیک کاموں کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے *

- 40 تراویح یا تہجد یا قیام رمضان ❁
- 41 تعداد رکعات تراویح ❁
- 42 دلائل گیارہ رکعت تراویح مع وتر ❁
- 44 لیلیۃ القدر ❁
- 45 اعتکاف ❁
- 48 کن امور سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا اور وہ جائز ہیں ❁
- 48 ممنوعات اعتکاف ❁
- 49 صدقہ فطر ❁
- 50 صدقہ فطر کس پر فرض ہے ❁
- 51 صدقہ فطر کب ادا کرنا چاہیے ❁
- 53 صدقہ فطر کس قدر اور کن چیزوں سے دینا چاہیے ❁
- 54 کیا صدقہ فطر میں یا قیمت یعنی نقد پیسہ دینا جائز ہے؟ ❁
- 55 عید الفطر ❁
- 55 زوال شمس کے بعد عید کا چاند دیکھنے کی شہادت ❁
- 56 عید الفطر کے دن یہ امور ممنون ہیں ❁
- 58 عورتوں کا عیدین کی نماز کے لیے عید گاہ جانا ❁
- 59 عید کی نماز صحراء یعنی کھلے میدان میں پڑھنی چاہیے ❁
- 59 عید کی نماز ❁
- 60 عید کی نماز کا طریقہ ❁
- 60 عید کا خطبہ ❁
- 61 شش عیدی روزے ❁
- 63 صحیح الاقوال فی استحباب صیام ستہ من شوال ❁



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تقدیم

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْأَمِينِ ،
أَمَّا بَعْدُ :

ہم رمضان کیسے گزاریں : ماہِ رمضانِ رحمتوں، برکتوں، سعادتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے جو یہ تقاضا کر رہا ہے کہ دیکھنا کہیں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میری تمام تر فضیلتیں سمیٹنے سے محروم نہ رہ جانا..... شاید یہ زندگی کا آخری رمضان ہو..... دوبارہ ایسا بارِ برکت مہینہ نصیبے میں نہ ہو..... کیا تم دیکھتے نہیں کتنے ہی ایسے ہیں جو تمہارے ساتھ سحری و افطاری میں شریک ہونے والے اور قیامِ رمضان میں ساتھ کھڑے ہونے والے تھے لیکن..... آج نظر نہیں آ رہے! کیوں؟..... اس لیے کہ ان کا مقررہ وقت پورا ہو چکا ہے۔

﴿وَكُنْ يُؤَيِّرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ قَارُونَ إِذْ جَاءَهُمْ قَارُونَ إِذْ جَاءَهُمْ قَارُونَ﴾ کی صدا آ چکی ہے بلکہ اب تو تم بھی..... اسی قطار میں کھڑے نظر آتے ہو، عنقریب..... تمہاری باری بھی آنے والی ہے، پھر کیوں نہ اس زندگی کے بقیہ لمحات و ساعات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو بدل دیں!

معصیت و نافرمانی کی دلدل سے نکل کر زہد و تقویٰ کے تالاب میں غوطہ زن ہوں، لیکن کیسے؟ ہم اپنی زندگیوں میں کس طرح انقلاب لائیں؟..... ہاں!..... رب کریم نے ہمیں ایک بہترین موقع عطا کیا ہے اور وہ ’ماہِ رمضان‘ ہے۔ ایک اور بات..... کہ ہم کس طرح اس مہینے کے شب و روز گزاریں، تاکہ ہمارا رب رحیم ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے اعمال اس کے ہاں مقبول قرار پائیں؟

تو پھر ضروری ہے کہ درج ذیل باتوں کو ملحوظ رکھا جائے:

توبہ: سب سے پہلے اپنی سابقہ زندگی پر ایک نظر ڈالیں کہ جس قدر بھی گناہ ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، خواہ تو لانا ہے یا عملاً تو ان سب سے اپنے اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کریں، توبہ کا مفہوم ہی یہ ہے کہ گناہ کے کاموں سے لوٹنا، گناہ کا اعتراف اور آئینہ کبھی نہ

کرنے کا عزم کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً كَاصُوحًا عَلَيْهِ رِبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾

”اے ایمان والو! اللہ کے حضور خالص توبہ کرو کچھ بعید نہیں کہ تمہارا پروردگار تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔“^①

ہو سکے تو خوفِ الہی سے چند قطرے آنسوؤں کے بھی شامل کر لیں، کیونکہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے ڈر سے رويا۔“^②

نیز آپ ﷺ نے فرمایا: ”سات قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا کرے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے تنہائی میں اللہ یاد آئے اور اس کے آنسو جاری ہو جائیں۔“^③ حصولِ تقویٰ: گناہوں کو چھوڑنے اور نیکی کے کام کرنے پر طبیعت کا مائل ہونا اور اپنے گناہوں کے انجام سے ڈر کر ان سے بچنے کی کوشش کرنا تقویٰ ہے اور ماہِ رمضان کا بڑا اور اہم مقصد تقویٰ کا حصول ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

”اے ایمان والو! تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کئے گئے تھے (اور اس کا مقصد یہ ہے) کہ تم میں تقویٰ پیدا ہو۔“^④ تقویٰ اختیار کرنے کے دنیاوی و اخروی بہت زیادہ فوائد ہیں جس کا تذکرہ قرآن و سنت میں جا بجا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۗ﴾^⑤

”جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے (مشکلات سے) نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے

① التحريم 8:66. ② سنن الترمذی: 1633، صحيح. ③ صحيح البخاری: 660، صحيح مسلم: 1031. ④ البقرة 2:183. ⑤ الطلاق 3:2، 65.

اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔“
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ سے ڈرو، اپنی پانچوں نمازیں ادا کرو، اپنے (رمضان کے) مہینے کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنے حاکموں کی اطاعت کرو، تو تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔“^①

روزے کی حفاظت: روزے کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نے اس سلسلے میں سُستی و کاہلی کا ثبوت دیا اور صحیح طریقے سے روزے کی حفاظت نہ کر سکے تو ہم اس کی فضیلتوں اور برکتوں سے محروم رہ سکتے ہیں۔ اس لیے لازم ہے کہ (روزے کے اجر و ثواب کو ختم کرنے والے اعمال مثلاً جھوٹ، بہتان چغلی، غیبت اور لڑائی جھگڑے سے بچا جائے، خصوصاً زبان کی حفاظت کی جائے اور تقویٰ اختیار کیا جائے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا اور کتنے ہی قیام (لیل) کرنے والے ایسے ہیں جنہیں بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا۔“^②

یعنی جو شخص بھی مذکورہ خرافات سے نہیں بچتا اس کا روزہ اسے کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ نیز نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔“^③

قیام اللیل: اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مہربوط کرنے کا اہم ذریعہ قیام اللیل ہے اور رمضان میں قیام اللیل فضیلت کے لحاظ سے اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے قیام رمضان کرتا ہے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔“^④

یہاں ایک بات کا خیال رہے کہ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ”قیام رمضان اکیلے اور گھر میں کرنا زیادہ بہتر ہے، لہذا ہم گھر میں قیام کریں گے“ لیکن وہ بیچارے ساری رات بستر پر سوئے ہی گزار دیتے ہیں۔ (إلا ما شاء اللہ)

① سنن الترمذی: 616، وسندہ حسن. ② سنن ابن ماجہ: 1690، سنن الدارمی: 2822، اسنادہ حسن. ③ صحیح البخاری: 1903. ④ صحیح البخاری: 37.

اور بعض حضرات قیام رمضان باجماعت کو سنت سمجھنے سے ہی انکاری ہیں! ایسے حضرات کی اصلاح کے لیے اس لمبی حدیث کا ایک حصہ پیش خدمت ہے جو آپ ﷺ نے قیام رمضان کے بارے میں فرمایا تھا: ”یقیناً جب آدمی امام کے ساتھ نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتا ہے تو بقیہ رات (بھی ثواب کے لحاظ سے) قیام ہی میں شمار کی جاتی ہے۔“^①

امید ہے کہ اس قدر قیام رمضان باجماعت کی فضیلت جان کر حیلوں اور بہانوں سے احتراز کیا جائے گا۔

تلاوتِ قرآن مجید کی کثرت: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قرآن (کثرت سے) پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے (پڑھنے والے) ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔“^②

یہ حقیقت ہے کہ اجر و ثواب کے لحاظ سے ماہ رمضان میں کیا ہو اعلیٰ زیادہ افضل ہے، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ رمضان میں تو خوب قرآن پڑھتے اور سنتے ہیں اور دیگر مہینوں میں قرآن مجید چھونے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ (والعیاذ باللہ)

ذکرِ الہی سے زبان تر رکھنا: لغویات و فضولیات کو ترک کر کے ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔^③

دوسرے مقام پر آپ ﷺ نے فرمایا: ”تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہئے۔“^④

صبح و شام کے اذکار کی پابندی بھی کرنی چاہیے جیسا کہ دیگر دلائل سے ثابت ہے۔

اعتکاف: رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنتِ نبوی ہے اور یہ تزکیہٴ نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔^⑤

① سنن ابی داؤد: 1376، سنن الترمذی: 806، سنن النسائی: 1365، سنن ابن ماجہ: 1337،
وسندہ صحیح. ② صحیح مسلم: 804، صحیح مسلم: 373. ③ سنن ابن ماجہ: 3793 وسندہ حسن.
④ صحیح البخاری: 2025، صحیح مسلم: 11171.

آخری عشرہ: اس عشرے میں اپنی تمام تر توانائی اس پہ خرچ کر دینی چاہیے کہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے اور ہماری کمیوں، کوتاہیوں اور خطاؤں سے درگزر فرمادے اور نیکیوں کے حصول میں اضافہ اور جذبہ سبقت ہو۔ (رمضان میں) رسول اللہ ﷺ بھلائی میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے۔^①

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب (آخری) عشرہ شروع ہو جاتا تو رسول اللہ ﷺ شب بیداری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے اور (عبادت کے لیے) کمر کس لیتے۔^② لیلیۃ القدر: اسی عشرے میں لیلیۃ القدر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۗ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۖ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۗ﴾

ہم نے اس (قرآن) کو شب قدر میں نازل کیا اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔^③

لہذا آخری عشرے میں لیلیۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص لیلیۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرے، تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔“^④

نیز رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم لیلیۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔“^⑤

ایک اہم بات: جو سلسلہ رمضان کی مبارک ساعتوں میں قائم کیا جائے وہ بقیہ گیارہ مہینوں میں بھی برقرار رہنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو شخص رمضان میں قیام اللیل اور اشراق وغیرہ تک کی پابندی کرتا تھا وہ غیر رمضان میں فرض نماز بھی چھوڑ بیٹھے اور پھر اسی معصیت و نافرمانی کی دلدل میں جا گرے جہاں پہلے پھنسا ہوا تھا اور مہینے بھر کے ”اعمالِ صالحہ“ کی کمائی اکارت کر دے۔ (والعیاذ باللہ)

① صحیح البخاری: 6، صحیح مسلم: 2308. ② صحیح البخاری: 2224، صحیح مسلم: 1774. ③ القدر: 3.1:97. ④ صحیح البخاری: 2008، صحیح مسلم: 760. ⑤ صحیح البخاری:

اس لئے ضروری ہے کہ اس مبارک مہینے میں اپنا احتساب کرتے ہوئے ہمیشہ کے لئے صراطِ مستقیم کا انتخاب کر لیں اور اپنا ہر لمحہ ہر لحظہ قرآن و سنت کے مطابق گزار کر آخرت میں اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں۔ ان شاء اللہ

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ (آمین)

ماہِ رمضان کے فضائل و احکام ایک نظر میں

جونہی ماہِ رمضان کا آغاز ہوتا ہے: ((فَتَبَحَّتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ)) جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ((غُلِقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ)) دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ((سُلِّسِلَتِ الشَّيَاطِينُ)) (سرکش) شیطانوں کو جھکڑ دیا جاتا ہے۔^① اور جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے اس مہینے (رمضان) کے روزے رکھے تو اس کے گزشتہ تمام (صغیرہ) گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔^②

روزہ دار ہی وہ خوش قسمت ہے جس کے لئے جنت کے آٹھ دروازوں میں سے ”الریان“ نامی دروازہ مخصوص ہے۔^③

اس کے برعکس ایسے آدمی کی ناک خاک آلودہ قرار دی گئی جس نے (اپنی زندگی میں) رمضان کا مہینہ پایا، لیکن بخشش سے محروم رہا۔^④ بڑے ہی نصیبی والا ہے وہ شخص جو ”ماہِ رمضان“ کی تمام ترفیضیتیں کما حقہ اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُ.

چاند دیکھ کر روزہ رکھنا: نبی ﷺ نے فرمایا: ”چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور اسی کو دیکھ کر روزہ افطار کرو اگر تم پر مطلع آبر آلود ہو تو شعبان کی گنتی میں تیس دن پورے کر لو۔“^⑤

روزے کی نیت: اس میں کوئی شک نہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن نیت دل کے قصد و ارادے کا نام ہے نہ کہ زبان سے خود ساختہ الفاظ کا ادا کرنا جیسا کہ ”وَبِصَوْمٍ غَدٍ“

① صحیح البخاری: 1899, 1898. ② صحیح البخاری: 1901. ③ صحیح البخاری: 1896. ④ سنن الترمذی: 3545 و سندہ حسن. ⑤ صحیح البخاری: 1909، صحیح مسلم: 1081.

نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ“ عوام میں مشہور ہے، حالانکہ یہ بے اصل ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

سحری کے مسائل: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کا کھانا فرق (کرتا) ہے۔“^①

مزید ارشاد فرمایا: ”سحری کھاؤ، کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔“^②
سحری کب تک کھا سکتے ہیں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی اذان سے اور کھانے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو (تو اذان کی وجہ سے) اسے رکھ نہ دے بلکہ اس سے اپنی ضرورت پوری کرے۔“^③

مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سحری کے وقت کے تعین میں لکھتے ہیں:
”جب کوئی شخص اذان سے اور اسے معلوم ہو کہ یہ اذان فجر ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ کھانے پینے سے رک جائے۔ اگر مؤذن طلوع فجر سے قبل اذان دے رہا ہو تو پھر رک جانا واجب نہیں بلکہ کھانا پینا جائز ہے۔“^④

مذکورہ بالا حدیث نبوی کا تعلق ایسے حضرات کے لئے ہے جو دیر سے بیدار ہوں جب کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ان تساہلین کے لئے ہے جو پیٹ بھر کے کھانے کے باوجود اذان ختم ہونے تک کھاتے رہتے ہیں۔ (واللہ اعلم بالصواب)

حالت جنابت میں سحری کھانا: حالت جنابت میں سحری کھا کر بعد میں غسل کیا جاسکتا ہے۔^⑤
تقاضائے روزہ: روزے کا تقاضا ہے کہ جھوٹ، بہتان، چغلی، غیبت، لڑائی، جھگڑے سے بچا جائے اور تقویٰ کو اپنایا جائے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا اور کتنے ہی قیام (اللیل) کرنے والے ایسے ہیں جنہیں بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا۔“^⑥

① صحیح مسلم: 2096. ② صحیح البخاری: 1923، صحیح مسلم: 1095. ③ سنن ابی داؤد: 2350 وسندہ حسن. ④ فتاویٰ اسلامیہ: 173/2 طبع دار السلام. ⑤ صحیح مسلم: 1109/80. ⑥ سنن الدارمی: 2722، إسناده حسن / طبع دار المعرفہ.

یعنی جو مذکورہ خرافات سے نہیں بچتا اس کا روزہ اسے کچھ فائدہ نہیں دیتا، نیز آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کو نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔“^①

جن کاموں سے روزہ نہیں ٹوٹتا: مباحات روزہ، غسل کرنا، مسواک کرنا، بھول کر کھانا یا پینا، سنگی لگوانا، سرمد لگانا، کنگھی کرنا اور تیل لگانا وغیرہ۔^②

روزہ جلدی افطار کرنا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہمیشہ وہ لوگ بھلائی میں رہیں گے جو روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔“^③ معلوم ہوا کہ وہ لوگ خطر پر ہیں جو قصداً روزہ دیر سے افطار کرتے ہیں اور اسے احتیاط کا نام دیتے ہیں۔

افطاری کی دعا: ”ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ وَنَبَتِ الأَجْرَانِ شَاءَ اللّٰهُ.“^④ اس کے علاوہ جو دعائیں مشہور ہیں وہ سنداً صحیح نہیں ہے۔

قیام اللیل (تراویح): رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے قیام رمضان کرتا ہے اس کے گزشتہ (صغیرہ) گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔“^⑤

قیام اللیل، تہجد، تراویح ایک ہی نماز کے نام ہیں، لیکن عموماً رمضان کی رات کو کیا جانے والا قیام، تراویح کے نام سے معروف ہے اور اس کی تعداد گیارہ رکعات ہے۔
[2+2+2+2+1+1(8+3)] ہے۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد صبح تک گیارہ رکعات پڑھتے تھے اور اسی نماز کو لوگ عتمہ بھی کہتے تھے۔ آپ ہر دو رکعات پر سلام پھیرتے اور ایک وتر پڑھتے تھے۔^⑥

ام المؤمنین رضی اللہ عنہا مزید فرماتی ہیں کہ رمضان ہو یا غیر رمضان رسول اللہ ﷺ گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔^⑦

① صحیح البخاری: 1903. ② صحیح البخاری: 1928-1940. ③ صحیح البخاری: 1957، صحیح مسلم: 1098. ④ سنن ابی داؤد: 2357، اسنادہ حسن. ⑤ صحیح البخاری: 37. ⑥ صحیح مسلم: 736. ⑦ صحیح البخاری: 2013.

ایسے ہی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابی بن کعب اور سیدنا تمیم الداری رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ لوگوں کو (رمضان میں رات کے وقت) گیارہ رکعات پڑھائیں۔^①

معلوم ہوا کہ تراویح کی تعداد گیارہ رکعات (3+8) ہی ہے۔ اور واضح رہے کہ پورا ماہ رمضان امام کے ساتھ نماز تراویح ادا کرنا مسنون اور افضل ہے۔ دیکھئے سنن ترمذی (806) جو حضرات اسے بدعت کہتے ہیں ان کا قول بے دلیل و مردود ہے۔

غیر اہل حدیث اور آٹھ تراویح: غیر اہل حدیث کے اکابر نے بھی آٹھ رکعات تراویح کو تسلیم کیا ہے۔ خلیل احمد سہارنپوری دیوبندی لکھتے ہیں: ”اور سنت موکدہ ہونا تراویح کا آٹھ رکعات تو بالافتاق ہے، اگر خلاف ہے تو بارہ میں“^②

عبد الشکور لکھنوی دیوبندی نے اپنی کتاب علم الفقہ (ص 198) میں آٹھ رکعات ہی کو مسنون قرار دیا ہے۔

روزہ اور اعتکاف کے اجماعی مسائل: اجماع ہے کہ جس نے رمضان کی ہر رات روزہ کی نیت کی اور روزہ رکھا اس کا روزہ مکمل ہے۔ اجماع ہے کہ سحری کھانا مستحب ہے۔

اجماع ہے کہ روزہ دار کو بے اختیار قے آجائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔

اجماع ہے کہ جو روزہ دار قصد اُتے کرے اس کا روزہ باطل ہے۔

اجماع ہے کہ روزہ دار (اپنی) رال اور (اپنا) تھوک نکل جائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔

اجماع ہے کہ عورت کو مسلسل دو ماہ کے روزے رکھنے ہوں اور درمیان میں ایام شروع ہو جائیں تو پاکی کے بعد پچھلے روزہ پر بنا کرے گی۔

اجماع ہے کہ ادھیڑ عمر، بوڑھے جو روزہ کی استطاعت نہیں رکھتے روزہ نہیں رکھیں گے (بلکہ فدیہ ادا کریں گے)

اجماع ہے کہ اعتکاف لوگوں پر فرض نہیں، ہاں اگر کوئی اپنے اوپر لازم کر لے تو اس پر واجب ہے۔

① موطاً امام مالک: 1/114 ح 229، السنن الكبرى للبيهقي: 293/1، وقال النيموي الحنفی: "اسنادہ صحیح" آثار السنن (ص 350). ② براہین قاطعہ، ص: 95.

اجماع ہے کہ اعتکاف مسجد حرام، مسجد رسول، اور بیت المقدس میں جائز ہے۔^①

اجماع ہے کہ معتكف اعتکاف گاہ سے پیشاب، پاخانہ کے لئے باہر جاسکتا ہے۔

اجماع ہے کہ معتكف کے لئے مباشرت (بیوی سے بوس و کنار) ممنوع ہے۔

اجماع ہے کہ معتكف نے اپنی بیوی سے عمداً حقیقی جماعت کر لی تو اس نے اعتکاف فاسد کر دیا۔^②

قارئین کرام! اس تمہید کے بعد عرض ہے کہ زیر نظر کتاب ”رمضان المبارک کے فضائل و احکام“ مولانا عبید اللہ محدث مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف لطیف ہے۔ اس میں ماہ رمضان کے احکام بڑے آسان فہم انداز میں مختصر مگر جامع بیان کیے گئے ہیں۔

راقم الحروف نے پوری کتاب کی تخریج و تحقیق کی ہے اور وضاحت طلب مقامات پر اختصار کے ساتھ جامع نوٹ بھی لکھ دیے ہیں۔ صاحب کتاب نے اکثر عربی عبارات کا ترجمہ نہیں کیا تھا، لہذا ان عبارات کا حتی الامکان ترجمہ بھی کر دیا گیا ہے۔

میں محترم محمد سرور عاصم رحمۃ اللہ علیہ مدیر مکتبہ اسلامیہ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ایک مفید کتاب پر تحقیق و تخریج اور تعلیق کا تقاضا کیا جس بنا پر مجھے خدمت حدیث کا موقع ملا۔

تنبیہ: دورِ حاضر میں بھی بعض الناس شوال کے چھ روزوں پر اعتراض کرتے ہیں، لہذا محدث العصر استاذی المعترم حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے تحریر کردہ مضمون ”صحیح الاقوال فی استحباب صیام ستہ من شوال“ کو بھی شامل اشاعت کر لیا گیا ہے جس میں بعض الناس کے اعتراضات کے مکمل جوابات ہیں اور اس موضوع پر ایک منفرد و جامع تحریر ہے۔

اللہ رب العزت ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور مؤلف، ناشر، راقم اور ہمارے اساتذہ و والدین کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین

حافظ ندیم ظہیر

مدیر ماہنامہ اشاعت الحدیث حضور

15 جون 2014ء

① ان تینوں مساجد میں بالاتفاق اعتکاف جائز ہے، ان کے علاوہ دوسری مساجد میں اعتکاف اگرچہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن راجح یہی ہے کہ تمام مساجد میں اعتکاف جائز ہے۔ ② الاجماع لابن المنذر، ص: 48، 47.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رمضان مبارک کے فضائل و احکام

روزے کی فرضیت پر عقلی دلائل اور فلسفیانہ حکمت و مصلحت سے قطع نظر کرتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کے وہ فضائل و منافع اور احکام و مسائل مختصر طور پر ذکر کر دیں جو صحیح احادیث اور مستند آثار و اقوال سے ثابت ہیں۔

① ((اِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَتُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ)) وَفِي رِوَايَةٍ ((فَتُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَ تُغْلَقُ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَ تُسَلِّسُ الشَّيَاطِينُ)) وَ فِي رِوَايَةٍ ((فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ))

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں“ اور ایک روایت میں ہے کہ ”جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں“ اور دوسری روایت کے مطابق ”رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔“^①

علماء نے لکھا ہے کہ جنت، آسمان یا رحمت کے دروازوں کا کھولنا، دوزخ کے دروازوں کا بند کرنا اور شیاطین کا زنجیروں میں جکڑ دیا جانا حقیقتاً ہے، اسے مجاز اور کنایہ پر محمول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض علماء نے مجاز پر محمول کرتے ہوئے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ آسمان کے دروازوں کا کھولنا نزول رحمت سے کنایہ ہے اور جنت کے دروازے کھولنے سے اچھے اور نیک کاموں کی توفیق دینی مراد ہے اور دوزخ کے دروازوں کا بند کرنا کنایہ ہے روزہ داروں کا نفسانی خواہشوں کے دبانے کے باعث معاصی اور طغیانی سے خلاصی پانے سے، اسی کو حضرت شاہ ولی اللہ نے حجۃ اللہ میں زیادہ تفصیل اور وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ مسلمانوں کا روزہ رکھنا راتوں میں قیام کرنا اور شیفگان سنت نبویہ کا انوار الہی میں غوطہ زن ہونا اور ان کی دعاؤں کا اثر دوسروں تک پہنچنا، ان کے نور کا پرتو دوسرے مسلمانوں پر پڑنا، ان کی برکتوں سے تمام

① صحیح البخاری کتاب الصوم، باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان...: 3277، 1899، صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب فضل شهر رمضان: 1079 (2496، 2495).

مسلمانوں کا مستفیض ہونا اور ہر مسلمان کا حسب توفیق و استعداد نیک اور اچھے عمل کرنا اور ہلاکت و تباہی میں ڈالنے والی برائیوں سے بچنا، گویا ان پر جنت کے دروازوں کا کھول دینا اور دوزخ کے دروازوں کا بند کر دینا ہے کیونکہ یہی چیزیں دوزخ سے بچا کر جنت میں لے جانے والی ہیں، اسی طرح جب قوتِ بسمیہ دبا دی گئی اور اس کا اثر اور عمل ظاہر نہیں ہوا اور تمام مسلمان اچھے کاموں میں مشغول ہو گئے اور قوتِ ملکیہ کے آثار و اعمال کا ظہور ہوا تو سمجھنا چاہیے کہ برائیوں پر برا بیخنتہ کرنے والے نیک کاموں سے باز رکھنے والے شیاطین قید کر دیے گئے۔^①

② ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَ احْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))

”جس نے رمضان کے روزے ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے رکھے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔“^②

ہر چھوٹے بڑے شرعی کام اور عبادت کی صحت اور مقبولیت کے لیے اخلاصِ نیت شرط ہے، اسی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے۔

③ ((كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرًا أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضَعِيفٌ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ يَكْفِي شَهْوَتَهُ وَ طَعَامَهُ مِنْ أَجْرِي لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَ فَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَ لِكُلُّوفٍ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ)) وَ فِي رِوَايَةٍ: ((وَ

① راجح بات وہی ہے جو شیخ محترم رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں بیان فرمائی کہ یہ حقیقتاً ہے مجازاً نہیں اور شیاطین باندھنے سے مراد سرکش شیطان ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں فرمایا: ((تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ تُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ النَّارِ وَ يُصْفَدُ فِيهِ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَ يُنَادِي مُنَادٍ كُلُّ لَبَلَةٍ: يَا طَالِبِ الْخَيْرِ! هَلُمَّ وَ يَا طَالِبِ الشَّرِّ! امْسِكْ)) ”اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھولے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس میں ہر شیطان مرید (سرکش شیطان) کو باندھ دیا جاتا ہے اور ایک منادی کہنے والا ہر رات کو یہ اعلان کرتا ہے: اے خیر کے طالب! آؤ (بھلائی کی طرف) اور اے برائی کے طالب! (برے کاموں سے) رُک جا۔“ (سنن النسائی: 2110 و سندہ حسن، نیز امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی تحقیق ہے۔ دیکھئے صحیح ابن خزیمہ (قبل حدیث: 1883) صحیح البخاری کتاب الصوم، باب: من صام رمضان إيمانًا و احتسابًا...: 1901، صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرین و قصرها، باب: الترغيب في قيام رمضان...: 760 (1781)۔

الصِّيَامُ جُنَّةٌ

”انسان کے ہر نیک عمل کا دس گنا ثواب ملتا ہے۔ یہ ثواب سات سو گنا تک بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: سوائے روزے کے (کیونکہ اس کے ثواب کے بارے میں حکم جداگانہ ہے، اس کا اجر و ثواب بے شمار ہے) بندہ میرے ہی لیے روزہ رکھتا ہے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ وہ محض میری خاطر اپنی خواہشات اور کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں: ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی جب اسے اپنے رب کا دیدار حاصل ہوگا۔ اس کے منہ کی بوالہ کے نزدیک مشک سے بھی بڑھ کر ہے۔“ ایک روایت کے مطابق: ”روزہ (برے کاموں و عذاب الہی سے بچاؤ اور) ڈھال ہے۔“^①

انسوس ہے ان لوگوں پر جو اس بابرکت اور مقدس مہینہ کو لوہو و لعب، فسق و فجور عصیان و طغیان، برائی اور بے حیائی، غفلت اور بے پروائی میں گزار دیتے ہیں اور اس مبارک مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کتنے مسلمان ہیں جو روزہ نہیں رکھتے اور اس سے بچنے کے لیے طرح طرح کے حیلے اور بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو رمضان کا مہینہ دور کے عزیزوں اور رشتہ داروں سے ملنے کے لیے مخصوص کر لیتے ہیں اور رمضان میں مسافر بن کر سارا مہینہ اسی سفر میں بغیر روزے کے گزار دیتے ہیں، اگر کوئی پوچھے بیٹھے تو سفر کا عذر پیش کر دیتے ہیں۔ دنیا میں انسانوں کو دھوکا دینے کے لیے بیماری اور سفر کے بہانے کام آجائیں گے مگر خالق عالم ظاہر، باطن دل اور زبان کی حالتوں سے آگاہ ہے، اس کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ بڑے بڑے شہروں میں جہاں مختلف قسم کے کارخانے، فیکٹریاں اور کالج ہیں وہاں ہزاروں نوجوان ایسے ملیں گے جو روزے نہیں رکھتے اور روزے رکھنے والوں کے ساتھ تمسخر اور محول کرتے ہیں۔ ایک وہ لوگ بھی تھے کہ سفر میں جہاد کے موقع پر نبی کریم ﷺ کے افطار کر دینے اور افطار کی رخصت و اجازت ملنے کے بعد بھی روزہ چھوڑنے میں تردد کرتے تھے،

① صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب فضل الصیام: 1151 (2708) واللفظ له، صحیح البخاری کتاب الصوم باب: هل يقول إني صائم إذا شتم؟: 1904.

اسلامی شعائر اور دینی فرائض سے محبت و شینگی اور بعد و نفرت کے دونوں دور پر نظر ڈالنے کے لئے کس قدر عبرت خیز ہے، انہی فرائض و واجبات کی محبت و اتباع نے ان کو بام عروج تک پہنچایا اور آج ان کی تعمیل کو تفسیح اوقات اور تکلیف مالا یطاق سمجھ کر ترقی سے مانع سمجھا جاتا ہے، لیکن اسے چھوڑ دینے کے باوجود اسی ذلت و پستی اور غلامی و عبودیت میں گھرے ہوئے ہیں بلکہ بدترین اور دوسروں کی نظروں میں ذلیل انسان بنے ہوئے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ اِرْحَمْنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ .

مہینے کی ابتدا اور انتہا میں رویت ہلال کا اعتبار

رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی دوسرا مہینہ، سال کے تمام مہینوں کی ابتدا اور انتہا میں نیا چاند نکلنے اور دیکھے جانے کا اعتبار ہے۔ جنتری اور کیانڈر اور فلکی حساب کا قطعاً اعتبار نہیں ہے۔ ارشاد نبوی ہے:

((صَوْمٌ مَوْلِدٌ وَيَوْمٌ مَوْلِدٌ لِرَبِّهِ))

”چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار (عید) کرو۔“^①

رویت ہلال کی شہادت

رمضان کے چاند کی رویت کے ثبوت کے لیے ایک معتبر مسلمان کی گواہی کافی ہے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ يَعْنِي هِلَالَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: ((أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: ((أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ)) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((يَا بِلَالُ! أَدِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا))

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا: بلاشبہ میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں؟“ اس نے کہا: جی

① صحیح البخاری کتاب الصوم، باب: قول النبي ﷺ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا...))

: 1909، صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال...: 1090 (2499).

ہاں۔ آپ نے فرمایا: ”کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں؟“ اس نے عرض کیا: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: ”اے بلال! لوگوں کو اطلاع دے دو کہ وہ کل روزہ رکھیں۔“^①

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ”تَرَأَى النَّاسَ الْهَلَالَ : فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَ وَ أَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ“
سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی۔ پس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے اس (چاند) کو دیکھ لیا ہے، لہذا آپ نے روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔^②

علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں روایتوں کے بارے میں فرماتے ہیں:

”الْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّهَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَاحِدِ فِي دُخُولِ رَمَضَانَ.“

مذکورہ دونوں حدیثیں دلالت کرتی ہیں کہ آغازِ رمضان کے سلسلے میں ایک آدمی کی گواہی قبول کی جائے گی۔^③

عید الفطر اور ذوالحجہ کے مہینوں کی ابتدا کے لیے دو معتبر مسلمان مردوں یا ایک مسلمان مرد اور دو عورتوں کی گواہی ضروری ہے۔

عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ”اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَدِمَ أَعْرَابِيَانِ فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّهِ لِأَهْلًا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يُفْطَرُوا. وَ زَادَ فِي رِوَايَةٍ وَأَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ.“

① سنن أبي داود كتاب الصيام، باب: في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان: 2340، سنن الترمذي كتاب الصوم، باب ماجاء في الصوم بالشهادة: 691، سنن النسائي: 2115، سنن ابن ماجه: 1652، وسنده ضعيف، كما عن كرمه روايت ضعيف هـي۔ ② سنن أبي داود كتاب الصيام، باب: في شهادة الواحد...: 2342 وسنده صحيح، و صححه ابن حبان: 871 والحاكم: 423/1، ③ نيل الأوطار 4/210، طبع دار احياء التراث العربي، بيروت.

”نبی ﷺ کے کسی صحابی سے روایت ہے کہ رمضان کے آخری دن کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہو گیا، دو اعرابیوں نے نبی ﷺ کے سامنے حاضر ہو کر اللہ کی گواہی دی، یعنی قسمیں کھائیں کہ انھوں نے کل شام کو چاند دیکھا ہے، لہذا رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو روزہ افطار کر لینے کا حکم دیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا: ”اور کل (عید پڑھنے کیلئے) عید گاہ جائیں۔“^①

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَارِثِ الْجَدَلِيُّ أَنَّ أَمِيرَ مَكَّةَ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ: ”عَهْدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَ شَهِدَ شَاهِدًا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا...“

حسین بن حارث جدلی کا بیان ہے کہ امیر مکہ نے خطبہ دیا اور فرمایا:

رسول اللہ ﷺ نے ہم سے عہد لیا کہ ہم چاند دیکھ کر ارکان حج ادا کریں۔ اگر ہم خود نہ دیکھ پائیں اور دو عادل گواہ شہادت دے دیں تو ہم ان کی گواہی پر حج کر لیں۔^②

قَالَ النَّوَوِيُّ: ”فَلَا يَجُوزُ بِشَهَادَةِ عَدْلٍ وَاحِدٍ عَلَى هِلَالِ شَوَّالٍ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ إِلَّا أَبَا نُورٍ“.

امام نووی نے فرمایا: ”ابو نؤر کے علاوہ تمام علماء کے نزدیک شوال کے چاند پر ایک عادل گواہ کی گواہی جائز (کافی) نہیں۔“^③

دوسرے مقام کی رویت کی خبر کا حکم

کسی مقام میں رمضان یا شوال کا چاند دیکھا گیا تو اس مقام رویت سے دور مشرق میں واقع دوسرے مقام والوں کے لیے ان کی رویت اس وقت معتبر ہوگی، جبکہ ان دوسرے مقامات کے مطالعہ مقام رویت کے مطلع سے مختلف نہ ہوں۔ موضع رویت سے دور مشرق میں واقع بلاد و امصار

① سنن أبي داود كتاب الصيام، باب شهادة لرجلين على رؤية هلال شوال: 2339، وقال الدارقطني: (2182/2/169) ”وهذا إسناد حسن ثابت.“ ② سنن أبي داود كتاب الصيام، باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال: 2338 وسنده حسن. ③ شرح صحيح مسلم (3/206).

کے حق میں مغربی مقام کی روایت کے اعتبار و عدم اعتبار کے معاملے میں اتحاد و اختلاف مطالع کا لحاظ ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے مدینہ منورہ میں شام (جو مدینہ سے شمال مغرب میں واقع ہے) کی روایت کا اعتبار بظاہر اس لیے نہیں کیا تھا کہ مدینہ کا مطلع شام کے مطلع سے مختلف ہے۔ ”لِحُكْلِ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمْ“ یہ نہ تو مرفوع حدیث ہے نہ کسی صحابی کا قول، بلکہ کسی فقیہ کا قول ہے، لہذا حدیث مذکور کے مقابلہ میں قابل التفات نہیں۔

بعض علمائے فلیکیات کا کہنا ہے کہ مطلع پانچ سو میل کے قریب کی مسافت پر مختلف ہو جاتا ہے۔ بنا بریں ہندوستان کے کسی مغربی مقام کی روایت اس کے مشرقی حصے مثلاً مشرقی بہار و بنگال کے حق میں معتبر نہیں ہوگی۔^①

تار، ٹیلی فون، خط اور ریڈیو کے ذریعے سے چاند کی خبر کا حکم

تار، لاسکی (وائرلیس) ٹیلی فون، خطوط، ریڈیو، بلاشبہ خبر رسانی کے ذرائع ہیں اور دنیا ان پر اعتماد کرتی ہے لیکن ان کا معاملہ شک و شبہ سے خالی نہیں ہوتا، اس لیے ایک خالص دینی و شرعی معاملے اور مسئلے میں ان ذرائع سے آئی ہوئی خبر و روایت پر مطلقاً اعتماد اور ان کے اعتبار کا حکم لگانا درست نہیں ہے۔ تار، ٹیلی فون، اور خط کی خبر صرف اس وقت معتبر ہوگی، جبکہ خاص انتظام کے تحت متعدد مقامات روایت سے متعدد تار ٹیلی فون یا خطوط آئیں، اور جن کو ٹیلی فون کیا گیا ہو یا خطوط لکھے گئے ہوں وہ لوگ ان ٹیلی فون کرنے والوں کی آوازیں اور خط لکھنے والوں کے رسم خط کو پہچانتے ہوں، جن کی بنا پر مستند علماء کو ان خبروں کا ظن غالب حاصل ہو جائے۔

ریڈیو کی خبر کے معاملے میں حسب ذیل امور پر نظر رکھنی ضروری ہے:

① حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ خراسان کی روایت کا اندلس میں اور اندلس کی روایت کا خراسان میں کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ (دیکھئے الاستدکار 3/283)

کریب مولیٰ ابن عباس نے جب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو بتایا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن پہلے جسے کو چاند دیکھا تھا تو انھوں نے اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا، بلکہ فرمایا: ”ہم نے تو جتنے کو چاند دیکھا تھا اور ہم اسی کے مطابق روز سے رکھتے رہیں گے حتیٰ کہ ہم چاند دیکھ لیں یا تیس دن پورے ہو جائیں۔“ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طرح حکم فرمایا تھا۔“ (دیکھئے صحیح مسلم 1087:2528)

① ریڈیو کی اجمالی خبر کہ فلاں شہر یا فلاں مقام میں چاند دیکھا گیا ہے، کل روزہ رکھا جائے گا یا عید منائی جائے گی، مطلقاً قابل قبول نہیں اور اس طرح کی خبر پر روزہ رکھنا یا افطار کرنا درست نہیں ہے، اسی طرح ایک مقام کی خبر کے بارے میں مختلف شہروں کے ریڈیو اسٹیشنوں کا اعلان بھی قابل قبول نہیں ہے۔

② ریڈیو سے رویت ہلال کا اعلان خبر شہادت اصطلاحی نہیں ہے، اس لیے اس میں شہادت مصطلح کے شرائط اور قیود کا لحاظ و اعتبار نہیں ہوگا۔

③ ریڈیو کے جس اعلان پر صوم یا افطار کا حکم دیا جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ تفصیلی ہو اور ذمہ دار علماء کی جماعت کی طرف سے ہو یا کم از کم اس جماعت کی ذمہ داری کے حوالے سے ہو کہ انہوں نے باضابطہ شرعی شہادت لے کر چاند نظر آنے کا فیصلہ کیا ہے، مثلاً کوئی متدکین مسلمان ریڈیو اسٹیشن سے یہ اعلان کرے کہ ہمارے شہر کی فلاں ذمہ دار رویت ہلال کمیٹی یا جماعت علماء یا قاضی شریعت یا امیر شریعت یا مفتی (بتصریح نام قاضی یا امیر یا مفتی یا ارکان کمیٹی یا علماء) نے شرعی ثبوت کے بعد یہ اعلان کرایا ہے۔ اس طرح کی صراحت و تفصیل کے ساتھ اعلان پر صوم اور افطار، یعنی عید منانا درست ہوگا۔ ایسا اعلان اسی وقت ہو سکتا ہے، جبکہ ہلال کمیٹی یا جماعت علماء یا قاضی شریعت یا امیر شریعت یا مفتی کا ریڈیو کے محکمہ کے ذمہ داروں سے باقاعدہ رابطہ قائم ہو۔

ریڈیو پر اعلان کرنے والا اگر کوئی متدین مسلمان نہ ہو بلکہ ریڈیو کا غیر مسلم ملازم ہو اور وہ کسی ذمہ دار رویت ہلال کمیٹی یا جماعت علماء یا قاضی شریعت (بتصریح نام) کے فیصلے کا اعلان تفصیل بالا کرے تو یہ خبر بھی قابل تسلیم و قبول ہوگی اور اس پر اعتماد کر کے صوم اور افطار کا حکم درست ہوگا جس طرح توپ، نقارہ کی آواز اور ڈھنڈورچی کے اعلان پر فقہاء نے صوم اور افطار صوم جائز قرار دیا ہے مگر واضح رہے کہ ریڈیو کی خبر سن کر ہر شخص کو بطور خود فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا کیونکہ وہ مشہور خبر کی شرعی حیثیت کو نہیں سمجھ سکے گا، اس لیے سننے والوں کا فرض ہوگا کہ وہ اس معاملے میں بھی اپنے یہاں کے ذمہ دار علماء کی طرف رجوع کریں اور ان کے فیصلے پر عمل کریں یہ مسئلہ اور معاملہ شرعاً انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی ہے۔

④ ریڈیو سے بصورت مذکورہ نمبر 3 جس مقام کی رویت کا اعلان ہو، اس مقام رویت سے

دور مشرق میں واقع انہیں مقامات میں اس رویت کا اعتبار اور اس پر عمل ہوگا جن کے مطالع مقام رویت کے مطلع سے مختلف نہ ہوں بلکہ ایک ہوں، یعنی ان کے یہاں کے افق پر بھی اسی شب میں چاند طلوع ہوتا ہو مگر ابر یا گردوغبار یا کسی اور وجہ سے نظر نہ آیا ہو۔

⑤ صوم، افطار، عید قربان، حج وغیرہ خالص دینی و شرعی مسائل ہیں، ان کو دنیاوی معاملات، سیاسی خبروں یا عام خبروں اور غیر اسلامی حکومتوں کے کاروبار پر قیاس کرنا قطعاً غلط بات ہے، حکومتیں اپنے مفاد کے لیے اپنے اپنے ریڈیو اسٹیشنوں سے جس قسم کے غلط اور صحیح پروپیگنڈے کا کام لیتی ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، ایسی حالت میں صوم و افطار وغیرہ دینی معاملات میں ریڈیو کی خبر و اعلان کے اعتبار کے لیے نمبر 3 میں مذکورہ و مبینہ قیود و حدود کا اعتبار و لحاظ ضروری ہے۔

مشکوٰۃ دلج میں روزے کا حکم

اگر شعبان کی تیسویں رات کو غبار یا بادل کی وجہ سے مطلع صاف نہ ہو اور چاند دکھائی نہ دے اور نہ دوسرے مقام ہی سے چاند دیکھے جانے کی معتبر اطلاع آئے تو وہ رات شعبان کی ہوگی اور اس سے اگلادین شعبان کا سمجھا جائے گا اور اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ تَكْلَافِيْنَ)) ”اگر مطلع ابر آلود ہو تو شعبان کے تیس دن پورے کرو۔“ ①

پس غبار یا ابر کی وجہ سے چاند دیکھنے کی صورت میں یہ خیال کر کے روزہ رکھنا کہ اگر کہیں سے چاند کی خبر آگئی تو یہ روزہ رمضان کا ہو جائے گا ورنہ نفل ہوگا غلط اور باطل ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جس نے شک کے دن میں روزہ رکھا، اس نے رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی کی۔ ② حاصل یہ ہے کہ شعبان کی آخری تاریخ مشکوک ہو تو اس میں روزہ نہ رکھا جائے اور نہ اس کو

① صحیح البخاری کتاب الصوم، باب: قول النبی ﷺ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَلَالَ فَصُومُوا...)) 1908; 1909; صحیح مسلم کتاب الصیام، باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال...: 1081 (2514; 2515; 2517). ② سنن أبي داود کتاب الصیام، باب کراهية صوم يوم الشك: 2334، سنن الترمذی: 686، سنن النسائی: 2190، سنن ابن ماجه: 1645، وسنده ضعيف، ابواسحاق مدلس ہیں اور روایت عن سے ہے۔

رمضان میں شمار کیا جائے۔ چاند کو چھوٹا بڑا دیکھ کر بھی شک نہیں کرنا چاہیے بلکہ جس روز چاند دیکھا گیا ہے اسی دن کا سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح رمضان کے استقبال میں چاند کیسے سے پہلے ایک دو روزے رکھنا جائز ہے۔ نبی کریم ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے۔^① ہاں اگر کسی اور دنوں میں نفلی روزہ رکھنے کی عادت تھی مگر اتفاقاً نہ رکھ سکا یا کسی شخص کی ہر آ خر ماہ میں نفلی روزے رکھنے کی عادت ہے تو ایسی صورت میں اجازت ہے کہ وہ آخری تاریخوں میں روزے رکھے۔

روزے کی نیت کا حکم

ہر عبادت کی صحت کے لیے نیت شرعی شرط ہے، پس روزے کی صحت بھی نیت شرعی کے ساتھ مشروط ہے، خواہ روزہ نفلی ہو یا فرضی، رمضان کا ہو یا نذر کا، ادا ہو یا قضا اور نفلی روزہ کے علاوہ ہر قسم کے روزے کے لیے صبح طلوع ہونے سے پہلے نیت کر لینا ضروری ہے، کیونکہ نفلی روزے کی اگر آفتاب ڈھلنے سے پہلے بھی نیت کر لی تو روزہ صحیح ہو جائے گا۔ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَهُوَ الرَّاجِعُ عِنْدَ شَيْخِنَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ ((مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ))

”امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہم علیہم کا رجحان بھی اسی طرف ہے اور یہی ہمارے شیخ مولانا عبدالرحمن محدث مبارکپوری رحمہ اللہ کے نزدیک راجح ہے، جیسا کہ انھوں نے ترمذی کی شرح (498/3) میں صراحت کی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص نے فجر سے پہلے روزہ رکھنے کا پختہ عزم نہ کیا، اس کا روزہ ہی نہیں۔“^②

جس نے صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس حدیث کے مرفوع اور موقوف ہونے میں اختلاف ہے، صحیح اور راجح اس حدیث کا مرفوع ہونا ہے۔ كَمَا حَقَّقَهُ الشُّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ وَابْنُ حَزْمٍ فِي الْمُحَلَّى يَهْدِيهِ حَدِيثُ فَرَضِ

① صحیح البخاری کتاب الصوم، باب: لا يتقدم بصوم يوم ولا يومين: 1914، و صحیح

مسلم، کتاب الصيام، باب: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين: 1082.

② سنن الترمذی کتاب الصوم، باب ماجاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل: 730 وسنده

ضعيف، الزهري عن عن، سنن النسائي: 2338 وسنده صحيح (موقوفاً).

اور نفل ہر قسم کے روزوں کو شامل ہے مگر نفل روزہ اس حدیث کے حکم سے مستثنیٰ ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ”كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِينِي وَيَسْأَلُنِي: ((أَعِنْدَكَ عَدَاءٌ؟)) فَأَقُولُ: لَا فَيَقُولُ: ((إِنِّي صَائِمٌ)) وَفِي رِوَايَةٍ: ((إِنِّي إِذَا صَائِمٌ)) يَعْنِي نَبِيَّ ﷺ مِيرے پاس آتے اور پوچھتے: ”کیا صبح کا کھانا ہے؟“ میں عرض کرتی نہیں، آپ فرماتے: ”میں روزہ رکھوں گا۔“^①

وَأَمَّا مَا رَوَى عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ: ((أَنْ إِذِنْ فِي النَّاسِ أَنْ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بِقِيَّةِ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ))^② أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ فَأَحْبَبَ عِنْدَهُ بِأَنَّهُ إِنَّمَا صَحَّتِ النَّيَّةُ فِي النَّهَارِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ صَوْمَ عَاشُورَاءَ أَنْزَلَتْ فَرَضِيَّتُهُ فِي النَّهَارِ فَصَارَ الرَّجُوعَ إِلَى اللَّيْلِ غَيْرَ مَقْدُورٍ وَالتَّرَاعُ فِيمَا كَانَ مَقْدُورًا فَيُخْصُ الْجَوَازُ بِمِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ أَعْنِي مَنْ ظَهَرَ لَهُ وَجُوبُ الصِّيَامِ عَلَيْهِ مِنَ النَّهَارِ فَتَأْمَلُ.

ہر روزے کے لیے نیت ضروری ہے۔ صرف پہلی رات کی نیت تمام روزوں کے لیے کافی نہیں ہوگی، اور نیت زبان سے لفظوں میں کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ دل میں نیت کر لیا ہی کافی ہے۔^②

سحری کھانے کی فضیلت

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((تَسْحَرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً)) ”سحری کھایا کرو، سحری

① صحیح مسلم کتاب الصیام، باب: جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال... 2715، 2714/154:، وسنن الترمذي: 734 واللفظ له، السنن الصغير للبيهقي: 1294. ② صحیح

البخاري كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء: 2007 و صحیح مسلم: 1135 (2667).

رہی سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کہ رسول اللہ ﷺ نے نبواً کے ایک شخص کو حکم دیا کہ ”وہ اعلان کرے جو شخص کھا چکا ہے وہ دن کے بقیہ حصے میں کھانے (پینے) سے رکا رہے اور جس نے نہیں کھایا تو وہ روزہ رکھے، کیونکہ یہ عاشورہ کا دن ہے۔“ اسے بخاری وغیرہ نے بیان کیا ہے اور اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ دن میں نیت کو شخص اس لیے درست قرار دیا کہ یہ عاشورہ کا روزہ ہے اور اس کی فرضیت دن کے وقت نازل ہوئی تھی، لہذا غیر مقدر صورت میں رات تک رجوع ہوگا، جبکہ اختلاف مقدور میں ہے۔ پس ایسی صورت کیلئے جواز کو خاص کیا گیا ہے، یعنی جس شخص پر دن کے وقت روزے کا واجب ہو جائے اور صبح ہو جائے۔

② آج کل نیت کے جو الفاظ: ”وَبِصَوْمٍ غَدٍ نَيْتٌ....“ زبان زد عام ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں، ان سے اجتناب ضروری ہے۔

کھانے میں برکت ہے۔“^①

دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا: ((فَصَلُّ مَا كَيْنَ صِيَامِنَا وَ صِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكَلَةُ السَّحْرِ)) ”ہمارے روزے اور اہل کتاب (عیسائی یہودی) کے روزے کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری کھانا ہے، یعنی وہ سحری کھائے بغیر روزہ رکھ لیتے ہیں۔“^②

سحری کھانے کی فضیلت میں اور حدیثیں بھی آئی ہیں۔ ان سب سے معلوم ہوتا ہے کہ سحری کھانا باعث خیر و برکت ہے۔ اس میں کیا شک ہے کہ سحری کھانے والے کو بہ نسبت سحری نہ کھانے والے کے بھوک اور پیاس کی تکلیف کم محسوس ہوتی ہے، وہ زیادہ کمزور اور پریشان نہیں ہوتا۔ ذکر الہی، تلاوت قرآن اور نماز وغیرہ میں چست رہتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے روزے اور یہودیوں و عیسائیوں کے روزے کے درمیان ماہ الامتیاز چیز سحری ہے۔ اس لیے سحری چھوڑنی نہیں چاہیے، کچھ نہیں تو ایک کھجور اور اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو ایک گھونٹ پانی ہی سحری کے وقت پی لینا چاہیے۔

سحری دیر سے کر کے کھانے کی مسنونیت اور فضیلت

آج کل عام طور پر لوگ اس ڈر سے کہ آخر شب میں بیدار نہ ہو سکیں گے اور اس صورت میں سارے گھر والے بغیر سحری روزہ رکھیں گے، ایک یا دو بجے شب میں ہی سحری کھا لیا کرتے ہیں یا نصف رات کو سحری کا وقت سمجھ کر بھی بعض لوگ ایسا ہی کرتے ہیں اور جب مختلف غذاؤں سے اچھی طرح شکم پُر کر لیتے ہیں اور (اپنی حاجت) سے فارغ ہو کر سوتے ہیں، کھانے کے نشہ میں خوب گہری اور زبردست نیند آنے کے باعث فجر کی نماز اول وقت غلٹ میں تو ادا کرنا درکنار آخر وقت میں بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ وہ آفتاب طلوع ہونے کے قریب بیدار ہوتے ہیں، بلکہ اگر جھنجھوڑ کر نہ جگایا جائے تو 8، 9 بجے تک سوتے رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایسا کرنے کی صورت میں دوہرے نقصان اور خسارے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ فجر کی نماز یا تو قضا ہو جاتی ہے یا مکروہ وقت

① صحیح البخاری کتاب الصوم، باب بركة السحور من غير إيجاب: 1923، و صحیح مسلم کتاب الصیام، باب فضل السحور...: 1095 (2549). ② صحیح مسلم کتاب الصیام، باب فضل السحور و تأکید استحبابہ...: 2550/1096.

میں ادا کرتے ہیں، اور سحری کا مسنون طریقہ اور وقت چھوڑ دیتے ہیں۔

سحری کا مسنون وقت اور طریقہ یہ ہے کہ صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے صبح کاذب میں یا صبح کاذب سے کچھ پہلے کھانا چاہیے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ: كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا؟ قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً.“

”ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سحری کھائی، پھر ہم نماز کیلئے کھڑے ہوئے۔ میں نے کہا: ان دونوں (اذان اور اقامت) کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا تھا؟ انھوں نے فرمایا: (تقریباً) پچاس آیتیں (پڑھنے) کے برابر۔^①

یعنی آپ کی سحری اور فجر کی نماز کے درمیان فاصلہ پچاس آیت پڑھنے کے برابر ہوتا تھا۔

کس قدر انسوس ہے کہ جو لوگ اس سنت پر عمل کرتے ہیں، یعنی سحری دیر کر کے کھاتے ہیں، ان سے مذاق کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ سحری دن میں کھاتے ہیں۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہاں سحری آخر شب میں کھانے والوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ کھانے پینے اور چائے میں مشغول رہ کر اس طرح بے خبر نہ ہو جائیں کہ صبح صادق طلوع ہوگئی ہو اور وہ اب تک اسی مشغول میں منہمک ہوں۔^②

وقت ہوتے ہی فوراً روزہ افطار کر دینا چاہیے

جب سورج غروب ہو جائے اور مشرق سے سیاہی نمودار ہو جائے تو روزہ افطار کر دینا چاہیے اور بلاوجہ شک میں پڑ کر دیر نہیں کرنی چاہیے، روزہ افطار کرنے کا یہی وقت ہے۔

① صحیح البخاری کتاب الصوم، باب قدر کم بین السحور و صلاة الفجر: 1921، وصحیح مسلم کتاب الصیام، باب فضل السحور و تأکید استحبابہ...: 1097 (2552) وسنن الترمذی: 704,703، و سنن ابن ماجہ: 1694، وسنن النسائی: 2154,2155. ② رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی اذان سے اتر کھانے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو (تو اذان کی وجہ سے) اسے رکھ نہ دے بلکہ اس سے اپنی ضرورت پوری کرے۔“ سنن أبی داود: 235، وسندہ حسن. لیکن واضح رہے کہ جو اپنی ضرورت پوری کر چکا ہو، اس پر لازم ہے کہ اذان فجر سنتے ہی کھانے پینے سے رک جائے۔ دیکھئے فتاویٰ اسلامیہ (73/2) ایک جائز فائدہ اٹھانا درست نہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهْنَا وَادْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهْنَا وَعَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ))

”جب رات سامنے آئے (مشرق سے سیاہی نمودار ہو جائے) اور دن پلٹ جائے اور آفتاب غروب ہو جائے تو روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا (اب بلا تاخیر روزہ افطار کر دینا چاہیے۔“^①)

((لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا الْإِفْطَارَ)) ”لوگ جب تک افطار میں جلدی کریں گے بھلائی میں رہیں گے۔“^②)

حدیث قدسی ہے: ((أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعَجَلَهُمْ فِطْرًا)) ”مجھے سب بندوں سے زیادہ محبوب وہ ہے جو روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتا ہے۔“^③)

یعنی آفتاب غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر لیتا ہے اور دیر نہیں کرتا۔ جلدی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آفتاب غروب ہونے سے پہلے یا اس کے غروب ہونے میں شک اور تردد ہونے کے باوجود روزہ افطار کر لیا جائے، غرض یہ ہے کہ افراط و تفریط سے بچنا چاہیے۔

روزہ افطار کرنے کی دعا

((اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ))

”اے اللہ! تیرے ہی لیے میں نے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے ہوئے سے افطار کیا۔“^④)

دوسری دعا: ((ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَّتِ الْأَجْرَانِ شَاءَ اللَّهُ))^⑤)

① صحیح البخاری کتاب الصوم، باب متى يحل فطر الصائم: 1954، صحیح مسلم کتاب الصیام، باب بیان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار: 1100 (2558). ② صحیح البخاری کتاب الصوم، باب تعجيل الإفطار: 1957، صحیح مسلم کتاب الصیام، باب فضل السحور...: 1098 (2554). ③ سنن الترمذی کتاب الصیام، باب ماجاء في تعجيل الإفطار: 700 وسنده ضعيف، امام زہری دلس میں اور روایت عن سے، یعنی سماع کی تصریح نہیں ہے۔ ④ سنن أبي داود کتاب الصیام باب القول عند الإفطار: 2358، وسنده ضعيف، معاذ بن زہرہ جمہول ہے، نیز سند مرسل ہے۔ ⑤ سنن أبي داود کتاب الصیام باب القول عند الإفطار: 2357 وسنده حسن.

”پیارا جاتی رہی، رگیں تر ہو گئیں اور ثواب لازم و ثابت ہو گیا، اگر اللہ نے چاہا۔“

روزہ کس چیز سے افطار کرنا چاہیے

تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرنا افضل ہے، اگر تروتازہ نہ ملیں تو خشک کھجوروں سے افطار کیا جائے یہ بھی میسر نہ ہوں تو پانی سے افطار کر لیا جائے۔

عَنْ أَنَسٍ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمْرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ».

”نبی کریم ﷺ نماز سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے۔ اگر تازہ میسر نہ ہوتیں تو خشک سے افطار کرتے، اگر خشک بھی میسر نہ ہوتیں تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔“^①

سلمان بن عامر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے روزے کی افطاری سے متعلق فرمایا:

(إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ)^②

”جب کوئی روزہ افطار کرنا چاہے تو کھجور سے افطار کر لے، کیونکہ وہ باعث نفع و برکت ہے۔ اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کر لے، کیونکہ وہ طاہر اور مُطَهَّر (پاکیزہ) ہے۔“^②

روزہ افطار کرانے کا ثواب

کسی دوسرے روزے دار کا روزہ افطار کرانا بڑے ثواب کا کام ہے۔ پس دوست احباب اور

① سنن أبي داود كتاب الصيام باب القول عند الإفطار: 2357 وسنده حسن، سنن الترمذی: 696. ② سنن الترمذی كتاب الصوم، باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار: 695 واللفظ له، سنن أبي داود كتاب الصيام، باب ما يفطر عليه: 2355، سنن النسائي: 2581، سنن ابن ماجه: 1699 وسنده صحيح، مسند أحمد 4/71.

عزیز و اقارب کے روزے افطار کرانے کے ساتھ فقرا و مساکین اور بیوہ عورتوں کے یہاں، نیز مساجد میں افطاری بھیج کر ثواب اخروی حاصل کرنے میں سبقت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((مَنْ فَطَرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أُجْرِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا)) ”جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اسے اس (روزے دار) کے برابر ثواب ملے گا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔“^①

نیز آپ نے فرمایا:

((مَنْ فَطَرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةٌ لِدُنُوبِهِ وَعَتَقَ رَقَبَتَهُ مِنَ النَّارِ وَ كَانَ لَهُ مِثْلُ أُجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجْرِهِ شَيْئًا)) قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ! لَيْسَ كُلُّنَا يَجِدُ مَا يَفْطِرُ الصَّائِمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يُعْطِي اللَّهُ هَذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَرَ صَائِمًا عَلَى مَذَقَةٍ لَبِنٍ أَوْ تَمْرَةٍ أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ وَ مَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةٍ لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ))

”جس شخص نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور وہ دوزخ سے آزاد ہو جائے گا اور اس کو روزے دار کے برابر اجر ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے اجر میں کچھ کمی واقع ہو۔“ صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم میں سے ہر شخص ایسا نہیں ہے جو روزہ افطار کرا سکے۔ آپ نے فرمایا: ”یہ اجر اللہ پاک ہر اس شخص کو دے گا جو کسی روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کرا دے اور جس کسی نے کسی روزہ دار کو خوب آسودہ اور سیر کر دیا تو اللہ پاک اس کو میرے حوض کوثر سے اتنا پلائے گا کہ وہ پیسا نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔“^②

① صحیح، سنن الترمذی: 807، وسنن ابن ماجہ: 1746. ② شعب الإيمان للبيهقي: 223/5، طبع مکتبۃ الرشد، وسندہ ضعیف. علی بن زید بن جردان ضعیف راوی ہے۔

روزے میں کون سے امور جائز ہیں اور کن امور سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟
 تریا خشک مسواک دن کے کسی بھی حصے میں کرنا، سرمہ لگانا اور آنکھ میں دوائی ڈالنا، سر یا بدن
 میں تیل ملنا، خوشبو لگانا، سر پر کپڑا تر کر کے رکھنا، فصد لینا، پچھنا لگوانا، بشرطیکہ کمزوری کا خوف نہ
 ہو، انجکشن لگوانا جو قوت اور غذا کا کام نہ دے، ضرورت کے وقت ہنڈیا کا نمک چکھ کر فوراً تھوک
 دینا اور کلی کرنا۔ صبح صادق کے بعد جنابت کا غسل کرنا، مرد کا بیوی سے صرف بوس و کنار کرنا،
 بشرطیکہ اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتا ہو اور جماع واقع ہونے کا خوف نہ ہو، دن میں احتلام ہو جانا،
 عورت کو دیکھ کر انزال ہونا، خود بخود قے آ جانا خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ، تالاب وغیرہ میں غسل کرنا،
 بشرطیکہ غوطہ لگانے کی صورت میں ناک یا منہ کے ذریعے سے حلق کے اندر پانی نہ جائے، پانی
 ڈالنا بغیر مبالغہ کے، ناک کے ریشہ کا اندر ہی اندر حلق کے راستے اندر چلے جانا، کلی کرنا، بشرطیکہ
 مبالغہ نہ کرے۔ کلی کرنے کے بعد منہ میں پانی کی تری کا تھوک کے ساتھ اندر چلے جانا، کھسی کا
 حلق میں چلے جانا، استنشاق بلا مبالغہ کی صورت میں، بغیر قصد و ارادہ پانی کا ناک سے حلق کے
 اندر اتر جانا، منہ میں جمع شدہ تھوک کو نگل جانا مگر ایسا نہ کرنا بہتر ہے۔ سوڑھے کے خون کا تھوک
 کے ساتھ اندر چلے جانا۔ کلی کرتے وقت بلا قصد و ارادہ پانی کا حلق میں اتر جانا، عورت سے بوس
 و کنار کی صورت میں انزال ہو جانا، بھول کر کھانی لینا۔^①

① ”روزے میں کون سے امور جائز ہیں اور کن امور سے روزہ نہیں ٹوٹتا“ کے تحت بعض امور ہمارے نزدیک محل نظر
 ہیں: ①: ہر قسم کے انجکشن اور کان و ناک میں دوائی وغیرہ ڈالنے سے اجتناب ضروری ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما
 نے فرمایا: ”الْإِفْطَارُ مِمَّا دَخَلَ وَ لَيْسَ مِمَّا حَوَّرَ ج.“ اگر (جسم میں) کوئی چیز داخل ہو جائے تو روزہ ٹوٹ
 جاتا ہے، البتہ نکلنے سے نہیں ٹوٹتا۔ (الاسلام لابن المنذر 1/175، وسندہ صحیح، نیز دیکھیے صحیح بخاری نقل حدیث: 1938) اس
 سے معلوم ہوا کہ بالارادہ روزے کی حالت میں انجکشن یا ناک و کان کے ذریعے سے دوائی جسم میں داخل کرنا جائز نہیں۔
 شریعت میں طبیعت زیادہ خراب ہونے کی صورت میں روزے کا ترک ثابت ہے، لیکن اس کی قضا لازم ہے۔ ②: بہتر
 یہی ہے کہ ہانڈی وغیرہ کو نہ چکھا جائے، کیونکہ اس سلسلے میں جن روایات سے استدلال کیا جاتا ہے وہ سند کے اعتبار سے
 ضعیف ہیں۔ دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ (47/3) یہ روایت جابر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے سخت ضعیف ہے۔ تفریق العلق لابی بن حجر
 (152/3) یہ روایت شریک بن عبداللہ اور اعش کے معنی کی وجہ سے ضعیف ہے۔ باقی حوالہ جات کے لئے دیکھیے: موطا
 امام مالک (294/1) ح 660 وسندہ صحیح (سنن ابی داؤد (2365) صحیح بخاری: 1925، 1926 صحیح مسلم (1109) مصنف ابن
 ابی شیبہ: 40/3، 9214 ح 35/3، 9486 ح 38/3، 9188 ح 38/3، نیز سورۃ بقرہ (173) وغیرہ (ندیم ظہیر)

((مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَ سَقَاهُ))

”جو روزے دار بھول کر کھاپی لے وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے۔“^①

یعنی بھول کر کھاپی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور نہ اس کی قضا دینی ہوگی۔

((مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قِضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ))

”جس نے رمضان کے مہینے میں بھول کر افطار کر دیا، اس کے ذمہ نہ قضا ہے نہ کفارہ۔“^②

مگر بھول کر جماع یا کھانے کی صورت میں جب یاد آجائے فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔

غبار دھوئیں یا آٹے کا زرد حلق کے اندر چلے جانا، موچھوں میں تیل لگانا، کان میں سلائی داخل کرنا، دانت میں اٹکے ہوئے گوشت یا کھانے کا ذرہ جو محسوس نہ ہو، پھر منتشر ہو کر رہ جائے اور حلق کے اندر چلے جانا۔

روزہ جن امور سے ٹوٹ جاتا ہے

دانستہ قصداً کھانا پینا خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ، دانستہ جماع کرنا، قصداً قے کرنا تھوڑی ہو یا زیادہ، مبالغہ کے ساتھ ناک میں پانی یا دوا چڑھانا۔ یہاں تک کہ حلق کے نیچے اتر جائے، کھانا پینا یا جماع کرنا، منہ کے علاوہ کسی زخم کے راستے سے ٹلی کے ذریعے سے غذا یا دوا پہنچانی، حقتہ کرنا، ان سب صورتوں میں ٹوٹے ہوئے روزہ کی قضا رکھنی ضروری ہے اور دانستہ بیوی سے صحبت (جماع) کر لینے کی صورت میں قضا کے ساتھ کفارہ دینا بھی ضروری ہے۔ کفارہ ایک مسلمان غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا ہے۔ اگر اس کی قدرت نہ ہو تو پے در پے (مسلل) ساٹھ روزے رکھے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔^③

① صحیح مسلم کتاب الصیام، باب أكل الناس وشربه و جماعه لا يفطر: 1155 (2716).

② صحیح، المستدرک للحاکم: 430/1، ابن حبان (موارد: 906) و السنن الکبریٰ للبیہقی:

229/4. صحیح البخاری کتاب الصوم، باب إذا جامع فی رمضان ولم یکن له شیء...:

1936، 1938، صحیح مسلم کتاب الصیام، باب: تغلیظ تحریم الجماع فی نهار رمضان علی

الصائم...: 1111 (2595).

بیمار، مسافر، حاملہ، مرضعہ کے لیے شرعی رخصت

اگر مسافر، بیمار یا حاملہ کو روزہ رکھنے کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہو اور دودھ پلانے والی عورت کے دودھ خشک ہونے کا خوف ہو تو ان لوگوں کے لیے شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھیں، بلکہ مسافر کے لیے اس صورت میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (البقرہ: 184) بیمار اور مسافر کیلئے رخصت ہے کہ روزے نہ رکھیں لیکن اس کے بعد ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا دینی ہوگی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ وَصَّحَ شَطْرَ الصَّلَاةِ أَوْ نِصْفِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمَرَضِ أَوْ الْحَبْلِ))

”اللہ نے مسافر کو قصر کی اجازت دی ہے اور مسافر، حاملہ اور مرضعہ (دودھ پلانے والی) کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دے دی ہے۔“^①

اگر سفر میں تکلیف نہ ہو اور بیماری، حمل اور دودھ پلانے کی حالتوں میں روزہ رکھنے سے ضرر و مشقت نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے اور جس طرح مسافر یا بیمار کو قضا دینی ہوتی ہے اسی طرح حاملہ کو وضع حمل کے بعد جب روزہ رکھنے کی طاقت ہو اور مرضعہ کو جب دودھ خشک ہونے کا خوف جاتا رہے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا دینی چاہیے۔ قَالَ شَيْخُنَا رَجِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ: ”الظَّاهِرُ أَنَّهُمَا (الْحَامِلُ وَالْمَرَضِعَةُ) فِي حُكْمِ الْمَرِيضِ قَبْلَ زَمَانِهِمَا الْقَضَاءُ“ ہمارے شیخ (عبدالرحمن محدث مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ) نے ترمذی کی شرح میں فرمایا: ”ظاہر یہی ہے کہ وہ دونوں (حاملہ اور مرضعہ) مریض کے حکم میں ہیں، لہذا ان دونوں پر قضا لازم ہے۔“^②

① حسن، سنن أبي داود كتاب الصيام باب اختيار الفطر: 2408، سنن الترمذي كتاب الصوم، باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع: 715، سنن النسائي: 2273، سنن ابن ماجه: 1667، وصححه ابن خزيمة: 2044.

② سلف صالحين کے اقوال و آثار کی روشنی میں راجح یہی ہے کہ حاملہ اور مرضعہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی اور اس کی قضا نہیں دے گی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک حاملہ عورت نے روزے سے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: ”أَفْطِرِي وَأَطْعِمِي عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مَسْكِينًا وَلَا تَقْضِي“ تم روزہ چھوڑ دو اور ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو

میت کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا

اگر مریض رمضان کے بعد تندرست ہو گیا، یا مرض میں اتنی تخفیف ہو گئی کہ وہ روزہ رکھ سکے لیکن اس نے قضا نہیں رکھی، پھر بیمار ہو کر مر گیا۔ یا مسافر کو سفر ختم ہو جانے کے بعد روزے کی قضا کا موقع ملا لیکن اس نے قضا نہیں رکھی اور قضا سے پہلے کسی بیماری یا حادثہ میں فوت ہو گیا تو ان دونوں کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا ان کے اولیاء (ورثاء) کے ذمے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَرِثَتُهُ))^① چھوٹے ہوئے روزوں کا فدیہ دینے کے بارے میں جو روایت ذکر کی جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔^② اگر رمضان کے بعد مریض کی بیماری یا مسافر کا سفر قائم رہا اور انھیں قضا کا موقع نہیں ملا اور اسی بیماری یا اسی سفر میں وہ فوت ہو گئے تو ان کے اولیاء کے ذمے ان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا نہیں اور نہ فدیہ ہی ہے۔

علامہ ابن قدامہ لکھتے ہیں: ”مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ مِنْ رَمَضَانَ لَمْ يَخُلْ مِنْ حَالَتِهِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ إِمْكَانِ الصِّيَامِ إِمَّا لِيُضِيقَ الْوَقْتَ أَوْ لِعُذْرٍ مِنْ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ أَوْ عَجْزٍ عَنِ الصَّوْمِ فَهَذَا لِأَشْيَاءٍ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ..... وَلِنَا أَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَجَبَ بِالشَّرْعِ مَاتَ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَبْلَ إِمْكَانِ فِعْلِهِ فَسَقَطَ إِلَى غَيْرِ بَدَلٍ كَالْحَجِّ..... الْحَالُ“

﴿کو کھانا کھلا اور قضا نہ دو۔ (سنن الدارقطني 1/208 ح 2363 و سندہ صحیح)﴾

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، آیت: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِئُونَ وَدَائِعَهُ﴾ (البقرة 2: 184) کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”أُنْبِئْتُ لِلنَّجْبِيِّ وَالْمُرْضِعِ“ یعنی حاملہ اور دودھ پلانے والی کے حق میں یہ آیت حکم (غیر منسوخ) ہے۔ (سنن أبي داود: 2317 و سندہ صحیح) سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”حاملہ عورت اور سچے کو دودھ پلانے والی وہ عورت جو اپنے بچے کے بارے میں خائف ہو تو یہ دونوں روزہ چھوڑ دیں اور ہر روزے کے بدلے میں ایک سنگین کو کھانا کھلا دیں، نیز ان دونوں پر کوئی قضا نہیں ہے۔ (المصنف لعبد الرزاق: 4/15 ح 7585 و سندہ صحیح)“

① ”جس کے روزے رہتے ہوں اور وہ فوت ہو جائے تو اس کی طرف سے اس کے ولی روزے رکھیں۔“ صحیح البخاری کتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم: 1952، صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب قضاء عن الميت: 1147 (2492). ② سنن أبي داود کتاب الصیام، باب: فیمن مات وعليه صیام: 2404 و سندہ ضعیف، سفیان ثوری دلس ہیں اور سماع کی صراحت نہیں ہے۔ سنن الترمذی: 718، سنن ابن ماجہ: 1757، یہ روایت اشعث بن سوار کے ضعف کی وجہ سے ضعیف ہے۔

الثَّانِي: أَنْ يَمُوتَ بَعْدَ امْكَانِ الْقَضَاءِ فَلَوْ اجْبُ أَنْ يُطْعَمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مَسْكِينٍ- وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالَ ثَوْرٌ: يُصَامُ عَنْهُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ مَاتَ

وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلَيْتَهُ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ^① (المعنى ج 3 ص 142 ص 143) نیز لکھتے ہیں: ”لَوْ تَرَكَهُ لِمَرَضٍ اتَّصَلَ بِهِ الْمَوْتُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ“ (المعنى ج 3 ص 141)^② اور امام نووی لکھتے ہیں: ”فَمَنْ فَاتَهُ صَوْمٌ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَمَاتَ قَبْلَ قَضَائِهِ فَلَهُ حَالَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَمُوتَ بَعْدَ تَمَكُّنِهِ مِنَ الْقَضَاءِ سِوَاءِ تَرَكَ الْإِدَاءَ بِعُذْرٍ أَمْ بِغَيْرِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَدَارُكِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ... الْحَالُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مَوْتُهُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْقَضَاءِ بِأَنْ لَا يَزَالَ مَرِيضًا أَوْ مُسَافِرًا مِنْ أَوَّلِ سُؤَالٍ حَتَّى يَمُوتَ فَلَا شَيْءَ فِي تَرْكِتِهِ وَلَا عَلَى وَرَثَتِهِ“ (روضة الطالبين جلد 2 ص 381 ص 382)^③

اور امام تہمتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب (السنن الكبرى جلد 4 ص 253) میں درج ذیل باب باندھتے ہیں: ”بَابُ الْمَرِيضِ يُفْطِرُ ثُمَّ لَمْ يَصِحَّ حَتَّى مَاتَ فَلَا يَكُونُ

① ”جو فوت ہو جائے اور اس کے روزے باقی ہوں“ دو حالتوں سے خالی نہیں۔ اولاً: وقت کی قلت یا روزہ رکھنے کی استطاعت ہی نہیں یا بیماری اور سفر کی وجہ سے روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملا اور وہ فوت ہو گیا تو اس صورت میں جمہور علماء کے نزدیک اس پر (فدیہ اور قضا وغیرہ) کچھ بھی نہیں.... اور شریعت میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا حق واجب ہے، جس شخص پر (حق) واجب ہو اور وہ اسے ادا کرنے سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ حج کی طرح دوسرے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ ثانیاً: وہ شخص جسے قضا کا موقع ملے (لیکن وہ قضا نہ دے سکے) تو جمہور علماء کے نزدیک واجب ہے کہ اس کی طرف سے ہر روز کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ ابو ثور نے فرمایا: اس کی طرف سے روزہ رکھا جائے، یہی قول امام شافعی کا ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر روزے ہوں تو اس کے ورثاء اس کی طرف سے روزہ رکھیں۔“ (متفق علیہ)۔ ② اگر اس نے بیماری کی وجہ سے (روزے) چھوڑے، پھر اسی بیماری میں فوت ہو گیا تو اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ ③ جس شخص کا رمضان کا روزہ چھوٹ گیا، پھر وہ اس کی قضا دینے سے پہلے فوت ہو گیا تو اس کی دو صورتیں ہیں: پہلی صورت: وہ قضا کی طاقت رکھنے کے بعد فوت ہوا، اس کا عذر یا بغیر عذر کی وجہ سے ادائے قضا چھوڑنا برابر ہے، لہذا اس کی وفات کے بعد بھی اس کا تدارک ضروری ہے۔ دوسری صورت: وہ قضا دینے کی استطاعت سے پہلے ہی فوت ہو گیا، یعنی وہ کیم شوال سے مسلسل بیمار رہا یا سفر میں رہا حتیٰ کہ وفات پا گیا، لہذا روزہ چھوڑنے کی وجہ سے اس پر اور اس کے ورثاء پر (فدیہ اور قضا وغیرہ میں سے) کچھ بھی نہیں ہے۔

عَلَيْهِ شَيْءٌ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا
أَمَرْتُمْ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ))^①

بوڑھے مرد اور عورت کے لیے شرعی رخصت

وہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت جو روزہ رکھنے کی قدرت نہ رکھتے ہوں یا روزہ رکھنے کی صورت
میں انتہائی کمزوری ہو جانے کی وجہ سے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو تو ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ
رکھیں اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔ آیت: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ
يُطِيقُونَ فَدِيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ﴾ (البقرہ: 184) کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:
”هِيَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا
فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مَسْكِينًا.“

① امام بیہقی رحمہ اللہ نے باریں الفاظ باب قائم کیا ہے: ”وہ مریض جس کے روزے چھوٹ گئے، پھر وہ تندرست نہیں ہوا حتی
کہ فوت ہو گیا تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب میں تمہیں
کسی کام کا حکم دوں تو اسے حسب استطاعت بجالایا کرو۔“ (دیکھئے صحیح البخاری: 7288 وغیرہ) اس سلسلے میں
ہمارے نزدیک راجح بات یہی ہے کہ حدیث: ((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَيُتَمِّمُهُ)) کا تعلق نذر کے
روزوں کے ساتھ ہے۔ امام ابوداؤد رحمہ اللہ نے مذکورہ حدیث کے بعد فرماتے ہیں: ”هَذَا فِي النَّذْرِ“ یہ مسئلہ نذر (کے
روزوں) کی صورت میں ہے۔ (سنن أبی داؤد: 2400) امام ابوداؤد رحمہ اللہ نے فرمایا: ”میں نے امام احمد رحمہ اللہ سے
سنا، انہوں نے فرمایا: نذر کے علاوہ میت کی طرف سے روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ میں نے امام احمد رحمہ اللہ سے عرض کیا: ماہ
رمضان (کے روزوں کے بارے میں کیا حکم ہے)؟ آپ نے فرمایا: اس کی طرف سے کھانا کھلایا جائے گا۔“ (مسائل
إمام أحمد: 661) عمرہ بنت عبد الرحمن بیان کرتی ہیں کہ ”ان کی والدہ فوت ہو گئیں، ان پر رمضان کے روزے باقی
تھے۔ انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا: میں ان (اپنی والدہ) کی طرف سے قضا دو؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے
فرمایا: نہیں، بلکہ ہر روزے کے بدلے میں کسی مسکین کو نصف صاع (گندم وغیرہ) صدقہ کرو۔“ (مشکل الآثار
للطحاوی: 6/179)، وسندہ صحیح، طبع الرسالة) واضح رہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی حدیث: ((مَنْ مَاتَ
وَعَلَيْهِ صِيَامٌ...)) کی راوی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے نذر کے روزے کے بارے میں فرمایا: ”يَصَامُ
عَنْهُ النَّذْرُ“ اس (میت) کی طرف سے نذر کا روزہ رکھا جائے گا۔ (المصنف لابن أبي شيبة: 5/91 ح
12725، وسندہ صحیح، طبع مكتبة الرشد) دیگر روزوں کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ”
لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ“ کوئی کسی کی طرف سے روزہ نہ رکھے، البتہ اس (میت) کی
طرف سے کھانا کھلایا جائے۔ (السنن الكبرى للنسائي: 2918 وسندہ صحیح) درج بالا دلائل سے معلوم
ہوا کہ مذکورہ حدیث کا تعلق نذر کے روزوں سے ہے نہ کہ رمضان کے روزوں سے۔ واللہ اعلم (ندیم ظہیر)

یہ آیت بوڑھے اور بوڑھی عورت کیلئے (غیر منسوخ) ہے۔ اگر وہ روزے کی طاقت نہ رکھیں تو انھیں چاہیے کہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔^①

روزے کا ثمرہ اور مقصد

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

”مومنو! جس طرح تم سے پہلی قوموں پر روزے فرض کئے گئے تھے، اسی طرح تم پر فرض کئے گئے ہیں شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔“^②

﴿شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

”رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور یہ ہدایت اور حق و باطل کی تیز کی دلیل ہے، پس جو اس مہینے میں زندہ رہے وہ روزے رکھے جو بیمار یا مسافر ہو وہ ان کے بدلے میں اور دنوں میں روزے رکھے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو اور اس لیے بھی کہ تم اللہ کی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو اور شکر ادا کرو۔“^③

قرآن پاک نے روزے کے حکم کے موقع پر ہمیں روزے کے تین نتیجے بتائے ہیں: تقویٰ، تکبیر اور شکر۔ انسانی کاموں کا حقیقی وجود ان کے نتیجوں اور ثمروں کا وجود ہے۔ اگر نتیجہ اور ثمرہ ظاہر نہ ہو تو سمجھنا چاہیے کہ وہ کام بھی نہیں ہوا، اگر بیمار کو حکیم نے دوا دی لیکن جس فائدے کے

① صحیح البخاری: 4505۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک سال (بڑھاپے کی بنا پر) روزہ رکھنے سے عاجز آ گئے تو آپ نے ایک بڑے برتن میں شہید بنوائی، پھر تیس مسکین کو بلا کر انھیں خوب سیر کرا دیا۔

(مسند الدارقطنی: 2/206، ح 2365 و مسندہ حسن) امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ”اس بات پر اجماع ہے کہ جو (اویز عمر) بوڑھے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ روزے کے بجائے فدیہ ادا کر دیں۔“ (کتاب الإجماع: 129)

② البقرة 183: 2. البقرة 185: 2.

لیے دی تھی وہ فائدہ حاصل نہیں ہوا تو سمجھنا چاہیے کہ حکیم نے دو انہیں دی اور نہ بیمار نے دو استعمال کی ہے۔ اسی طرح روزے کو اپنا روحانی علاج سمجھنا چاہیے۔ پس اگر روزے سے روحانی شفا یعنی تقویٰ، تسبیح و تہلیل، تکبیر و تہلیل، حمد و ثنا وغیرہ حاصل نہ ہو تو حقیقت میں وہ روزہ نہیں، بلکہ فائدہ ہے اور ایسا روزے دار فاقہ نش ہے جسے بھوک پیاس کی تکلیف کے علاوہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے روزے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((كَمْ مِنْ صَائِمٍ إِلَّا السَّهْوُ)) ”کتنے روزے دار ہیں جنہیں بجز نشئی کچھ حاصل نہیں اور کتنے تہجد گزار ہیں جن کے تہجد سے بجز بیداری کچھ فائدہ نہیں۔“^①

روزے کا پہلا ثمرہ تقویٰ بتایا گیا ہے جس کے معنی اصطلاح شرع میں ہر قسم کی جسمانی، نفسانی، دنیاوی لذتوں اور خواہشات سے جسم اور روح کو محفوظ رکھنے کے ہیں اور یہی روزہ کی حقیقت ہے جس کے ساتھ تکبیر اور حمد و ثنا بھی ہونی چاہیے۔ ہم خیال کرتے ہیں کہ گناہ کے ارتکاب، نفسانی خواہش کی پیروی اور عصیان و طغیان سے روزہ نہیں ٹوٹتا مگر یاد رکھنا چاہیے دل اور روح کا روزہ ضرور ٹوٹ جاتا ہے اور جب روح و قلب کا روزہ باقی نہیں رہا تو شخص جسم کا روزہ بے سود اور غیر مفید ہے۔

((الصَّائِمُ فِي عِبَادَةٍ مِنْ حِينِ يُصْبِحُ إِلَى أَنْ يُسَبِّحَ مَا لَمْ يَغْتَبْ فَإِذَا اغْتَابَ حَقَّقَ صَوْمَهُ))

”روزے دار صبح سے شام تک عبادت الہی میں رہتا ہے جب تک کسی کو غیبت نہ

کرے جب وہ غیبت کرتا ہے تو اپنے روزے کو پھاڑ ڈالتا ہے۔“^②

ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے برے اور بہبودہ کام، لغو باتیں اور سرکش نفس روزے کے منافی نہیں ہیں، لیکن یہ خیال جھوٹا اور غلط ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((لَيْسَ الصَّيَّامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ إِنَّمَا الصَّيَّامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ))

”روزہ کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں، بلکہ حقیقت میں بڑے اور لغو کام سے بچنے

① سنن الدارمی، باب: فی المحافظة علی الصوم: 2762 وسنده حسن. ② موضوع، الجامع الصغیر للسیوطی: 7356، دیلمی 258، 257/2، السلسلة الضعیفة للألبانی: 3790.

کا نام ہے۔^①

ہمارے طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم جھوٹی باتوں اور بُرے عملوں کو روزے کی صحت کے لیے مضرب خیال نہیں کرتے، حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ
كَلِمَاتَهُ وَشَرَّابَهُ))

”جو شخص روزے کی حالت میں بھی کذب و زور اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو

کوئی ضرورت نہیں کہ اس کے لیے روزے دار اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔“^②

پس اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ روزے دار حقیقت میں نیکی اور بھلائی کا مجسمہ ہوتا ہے نہ تو وہ کسی کی غیبت کرتا ہے، نہ لغو و بیہودہ عمل کرتا ہے، نہ کذب و زور اور جہالت کے کاموں میں اپنے آپ کو ملوث کرتا ہے، نہ نفسانی خواہش کی اتباع کرتا ہے بلکہ برائی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دیتا ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَزِفُّهُ وَلَا يَصْحَبُ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ
قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي أَمْرٌ صَائِمٌ))

”تم میں سے جب کسی کے روزے کا دن ہو تو وہ نہ بدگویی کرے اور نہ شور و غل کرے۔ اگر کوئی اسے برا کہے یا اس سے آمادہ پیکار ہو تو کہہ دے: میں روزے سے ہوں۔“^③

ماہ رمضان میں نیک کاموں کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے

((مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ
وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ))

① حسن، السنن الكبرى للبيهقي: 4/270، والمستدرک للحاکم: 1/430، 431، ابن خزيمة: 1996، ابن حبان: 3470. ② صحيح البخاري كتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور...: 1903. ③ صحيح البخاري كتاب الصوم، باب هل يقول: إني صائم إذا شتم؟: 1904، و صحيح مسلم كتاب الصيام، باب فضل الصيام: (2706) 1151.

”جس شخص نے رمضان میں ایک نیک نفلی کام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب چاہا تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک فرض ادا کیا اور جس نے ایک فرض ادا کیا، وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے ماسوا رمضان میں ستر فریضے ادا کئے۔“^①

معلوم ہوا کہ اس مقدس اور بابرکت مہینے میں ہر نیک اور اچھے کام کا ثواب بہت زیادہ ملتا ہے، خواہ نفلی ہو یا فرضی، لہذا قرآن کی تلاوت، تسبیح و تقدیس، تکبیر و تہلیل حمد و شکر، تراویح اور دوسرے نیک کاموں میں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اس مبارک مہینے میں دل کھول کر صدقات و خیرات کرنا چاہیے۔ رسول اللہ ﷺ کی سخاوت تیز و تند ہوا سے بھی زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔^② اسی لیے آپ نے اس مہینے کو شہر المواساة (ایک دوسرے کی غنوخواری اور مدد کرنے کا مہینہ) بتایا ہے۔^③ ہمارے سالانہ فرض دو ہیں: ایک جسمانی اور ایک مالی فریضہ، مالی (زکوٰۃ) اگرچہ کسی وقت کے ساتھ محدود اور مخصوص نہیں ہے، مگر جب رمضان میں ایک فرض کی ادائیگی سے ستر فریضے کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے تو ادائیگی (فریضہ مالی) کے لیے رمضان سے بڑھ کر دوسرا کون سا وقت ہوگا۔

تراویح یا تہجد یا قیام رمضان

تراویح، تہجد، قیام رمضان تینوں ایک چیز ہے، ابن ماجہ میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہما والی لمبی حدیث اس دعویٰ کی روشن دلیل ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے۔ آپ نے آخری عشرے کی تین راتوں میں ہمیں (تراویح کی) نماز (قیام اللیل) اس طرح پڑھائی: پہلی رات میں اول شب میں ادا کی، یہاں تک کہ تہائی رات گزر گئی اور دوسری رات میں نصف شب تک پڑھائی۔ ہم نے بقیہ نصف شب میں بھی پڑھنے کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا ”جس نے امام کے ساتھ قیام کیا، اس نے پوری شب کا قیام کیا۔“ تیسری رات میں آپ نے آخر شب میں گھر والوں کو جمع کیا، اور

① ضعیف، ابن خزیمہ: 1887، شعب الإیمان للبخاری: 3336، علی بن زید بن جعدان ضعیف راوی ہے۔

② صحیح البخاری: 6، صحیح مسلم: 2308، ضعیف، ابن خزیمہ: 1887، شعب الإیمان

③ 3336، علی بن زید بن جعدان ضعیف ہے۔

سب کے ساتھ نماز (تراویح) پڑھی۔ یہاں تک کہ ہم ڈرے کہ سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے۔^① اس روایت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے تراویح کو رات کے تینوں حصوں میں ادا فرمایا ہے اور اس کا وقت عشاء کے بعد سے آخر رات تک اپنے عمل کے ذریعے سے بتا دیا ہے۔ اب تہجد کے لیے کونسا وقت باقی رہا؟ لہذا تراویح اور تہجد کے ایک ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔

العرف الشذی (ص 254، تقریر ترمذی از جناب محمد انور شاہ کشمیری دیوبندی) میں ہے: ”لَا مَنَاصَ مِنْ تَسْلِيمِ أَنْ تَرَاوِيحَهُ كَانَتْ ثَمَانِيَةَ رَكَعَاتٍ وَكَمْ يَثْبُتُ فِي رِوَايَةٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ صَلَّى التَّرَاوِيحَ وَالتَّهَجُّدَ عَلَيْهِ حِدَّةً فِي رَمَضَانَ...“

یعنی اس بات کے تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں کہ نبی کریم ﷺ کی نماز تراویح آٹھ رکعت تھی اور کسی روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ ﷺ نے نماز تراویح اور نماز تہجد علیحدہ علیحدہ پڑھیں۔

تراویح یا تہجد کا جماعت کے ساتھ یا تنہا مسجد میں یا گھر میں آخر رات میں پڑھنا افضل ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”وَالَّتِي تَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقُومُونَ.“ تراویح آخر رات میں پڑھنا جس میں تم سو جاتے ہو اول رات میں پڑھنے سے افضل ہے۔^②

مگر اس غفلت، حیلہ سازی، بہانہ جوئی اور عذر تراشی کے زمانے میں مسجد میں اول رات میں جماعت کے ساتھ تراویح ادا کی جائے، ورنہ اکثر لوگ اس سے غافل ہو کر چھوڑ بیٹھیں گے اور کبھی پورے قرآن کی تلاوت تو درکنار اس کا سماع بھی نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں تراویح باجماعت مسجد میں اول شب میں ہو کرتی تھی اور آپ ﷺ نے بھی تین راتوں میں سے پہلی رات میں اول شب میں ادا فرمائی تھی۔

تعداد اور رکعات تراویح

تراویح کے بارے میں سلف کے مختلف اقوال ہیں چالیس، چونتیس، اٹھائیس، چوبیس، اڑتیس، بیس، آٹھ ان اقوال کو عینی وغیرہ نے بالتفصیل ذکر کیا ہے۔ ان مختلف اقوال سے اس دعویٰ کی

① سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب في قيام شهر رمضان: 1375، سنن الترمذي: 808، سنن النسائي: 1365، سنن ابن ماجه: 1338، وسنده صحيح. ② صحيح البخاري: 2010.

حقیقت واضح ہوگئی کہ بیس رکعت پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اجماع ہو گیا تھا۔ ان اقوال مختلفہ میں پچھلا قول یعنی آٹھ رکعت اور وتر کو شامل کر کے کل گیارہ رکعت ہیں اور یہی صحیح ہے اور سنت کے مطابق اور اس کے علاوہ کوئی قول سنت کے موافق نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی آٹھ رکعت سے زیادہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے ^① چاہے بیس یا اٹھائیس یا چونتیس یا چالیس یا چھتیس آٹھ کے بعد سب تعداد برابر ہے۔ بیس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، جیسا کہ آج کل سمجھا جاتا ہے اور نہ یہ سنت فاروقی ہے بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے زمانہ خلافت میں کل گیارہ ہی رکعت پڑھنے کا حکم دیا تھا۔

دلائل گیارہ رکعت تراویح مع وتر

① عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: «مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً.» ^②

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں تراویح (تہجد) گیارہ رکعت سے زائد نہیں پڑھتے تھے۔

② عَنْ جَابِرِ رضی اللہ عنہ قَالَ: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَ.» ^③

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان کے مہینے میں آٹھ رکعت تراویح پڑھائی، پھر وتر پڑھا۔

③ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ أَبِي بَنُ كَعْبٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ كَانَ مِنِّي اللَّيْلَةَ شَيْءٌ قَالَ: ((وَمَا ذَاكَ يَا أَبِي؟)) قَالَ: نِسْوَةٌ فِي دَارِي قُلْنَا: إِنَّا لَا نَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَنُصَلِّي

① ہمیشہ مسنون اور ثابت شدہ عمل ہی کرنا چاہیے اور وہ گیارہ رکعت 11=3+8 ہیں، مزید تفصیل آگے آ رہی ہے۔ ان شاء اللہ
② صحیح البخاری کتاب الصلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان: 2013. ③ حسن، مسند
أبي يعلى: 3/336، 1802، صحیح ابن حبان: 2409، المعجم الأوسط للطبرانی: 3733.

بِصَلَوَتِكَ قَالَ : فَصَلَّيْتُ بِهِنَّ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَ أَوْتَرْتُ قَالَ:
فَكَانَ شِبْهُ الرِّضَاوَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا.“

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! رات کو مجھ سے ایک کام سرزد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا: ”اے ابی! کیا ہوا؟“ عرض کیا: میرے گھر کی چند عورتوں نے کہا: ہم قرآن نہیں پڑھتیں یعنی زیادہ یا نہیں ہے۔ ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گی اور قرآن سنیں گی۔ پس میں نے انھیں آٹھ رکعت تراویح پڑھائی اور وتر ادا کیا، آپ خاموش رہے اور یہ سنت رضا ہو گئی۔“^①

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ: ”أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبِي بَنَ كَعْبٍ وَ تَمِيمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِأَحَدِي عَشْرَةَ رَكْعَةً.“
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب اور تميم داری رضی اللہ عنہما کو گیارہ رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا۔^②

میں رکعت والی کوئی روایت اور اتر صحیح ثابت نہیں ہے۔ کَمَا حَقَّقَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِ مَنْ شَاءَ، علامہ ابن ہمام حنفی اور مولانا عبدالحق دہلوی، مولانا عبدالحق حنفی اور دیگر علمائے حنیفہ نے بھی بیس رکعت والی مرفوع روایت کو ضعیف بتایا ہے اور گیارہ رکعت کو سنت اور اصل قرار دیا ہے۔^③

① حسن، مسند أبي يعلى: 3/336 ح 1801، صحيح ابن حبان: 2549، مجمع الزوائد: 2/74 ح 2387 وقال الهيثمي: ”وإسناده حسن.“ ② صحيح، موطأ إمام مالك: 114/1 ح 249، السنن الكبرى للبيهقي: 293/1 وقال النيموي الحنفي: ”إسناده صحيح“ آثار السنن (ص 350). ③ فتح القدير: 407/1 و نسخة أخرى: 427/1، نصب الراية: 153/2، العرف الشذي: 166/1.

جناب خلیل احمد سہارنپوری دیوبندی لکھتے ہیں: ”اور سنت موکدہ ہونا تراویح کا آٹھ رکعات تو بالاتفاق ہے، اگر خلاف ہے تو بارہ میں۔“ (براہین قاطعہ ص 95) اور عبدالحکوم لکھنوی دیوبندی لکھتے ہیں: ”اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آٹھ رکعت تراویح مسنون ہے...“ (علم الفقہ ص 198)

لیلۃ القدر

شب قدر وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہونا شروع ہوا، عزت و حرمت کی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، امن و سلامتی کی رات ہے جس میں عالم کے لیے امن و سلامتی کا پیغام اترا، وہ برکت والی رات ہے جس میں برکات ربانی رحمت ہائے آسمانی کی ہم پر سب سے پہلے بارش ہوئی۔

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۗ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۚ تَنزِيلُ الْمَلَكِ ۚ وَ الزُّوْحُ فِيهَا يَأْتُونَ رَبَّهُمْ ۚ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۗ سَلَامٌ تُهَيِّئُ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۙ﴾

”ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے وہ ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے، اس میں فرشتے اور روح الامین (جبرائیل علیہ السلام) اپنے رب کے حکم سے امن اور سلامتی لے کر اترتے ہیں جو طلوع فجر تک قائم رہتی ہے۔“^①

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبْرَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۗ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۗ أَمْراً مِّنْ عِنْدِنَا ۗ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۗ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ ۗ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۗ﴾

”بلاشبہ ہم نے اسے ایک با برکت رات میں نازل کیا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، اسی (رات) میں ہر محکمہ معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، خاص ہمارے حکم سے بے شک ہم ہی (رسول) بھیجنے والے ہیں، آپ کے رب کی خاص رحمت سے بلاشبہ وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔“^②

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))

”جس نے شب قدر میں ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پہلے گناہ

معاف کر دیے جائیں گے۔“^①

پس ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس رات میں رحمت الہی کا طلبگار ہو اور رحیم و کریم کے سامنے سر نیاز جھکا دے اور خشوع و خضوع سے یہ دعا پڑھے:

((اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي))

”اے اللہ! تو بڑا معاف کرنے والا ہے درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے۔ پس میرے گناہوں سے درگزر فرما۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: اگر میں شب قدر پاؤں تو کیا پڑھوں؟ آپ نے انھیں یہی دعا سکھائی تھی۔^②

شب قدر رمضان کے آخری عشرہ میں پانچ طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ پس ہر مسلمان کو چاہئے کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں خصوصیت اور غایت اہتمام کے ساتھ تسبیح و تقدیس، تکبیر و تہلیل، استغفار و ذکر الہی، تلاوت قرآن، نفل نمازوں میں مشغول رہے اور طاق راتوں میں شب قدر کی جستجو کرے کہ اس ایک رات کی عبادت ہزار رات کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔

اعتکاف

عبادت الہی کی نیت سے مسجد میں اپنے آپ کو مقید کرنا، اعتکاف ہے اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّخِرَ

مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوْفَاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَرْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ»^③

① صحیح البخاری کتاب الصوم، باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً: 1901، صحیح

مسلم کتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح: 760 (1781).

② سنن الترمذی کتاب الدعوات باب في فضل سؤال العافية والمعافاة: 3513، سنن ابن

ماجه کتاب الدعاء، باب الدعاء بالعفو والعافية: 3850 وسنده ضعيف، يراقطع کی وجہ سے ضعیف

ہے، کیونکہ عبد اللہ بن بریدہ کا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سماع ثابت نہیں ہے۔ ③ صحیح البخاری کتاب الاعتکاف،

باب الاعتکاف فی العشر الأواخر: 2026، صحیح مسلم کتاب الاعتکاف، باب: اعتکاف

العشر الأواخر من رمضان: 1172 (2784).

یعنی آپ ہمیشہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے حتیٰ کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی۔ آپ کے بعد آپ کی ازواج اعتکاف کرتی رہیں۔

اعتکاف کرنے والا چونکہ قرب الہی کی طلب میں اپنے آپ کو عبادت الہی کے لیے وقف کر دیتا ہے اور دنیا کے تمام مشاغل سے دور ہو جاتا ہے، اس لیے یہ ان اشخاص کے مشابہ ہے جن کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

”اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو کچھ انھیں حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔“^①

﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾

”رات دن پاکی بیان کرتے ہیں اور سستی نہیں کرتے۔“^②

﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾

”اللہ کو کھڑے، بیٹھے اور پہلوؤں پر لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں اور ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔“^③

﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا حُزُّوا وَسَجَدًا أَوْ سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾^④
تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾

”ان کی حالت یہ ہے کہ جب آیات قرآنیہ کے ساتھ انھیں نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر جاتے ہیں اور حمد الہی کے ساتھ رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، ان کے پہلو ان کی خوابگا ہوں سے دور رہتے ہیں، امید و بیم کی حالت میں اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں۔“^④

انھیں اللہ کی یاد سے خرید و فروخت غافل نہیں کرتی۔

عَنْ عَائِشَةَ ”أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَ أَيْقَظَ

① التحريم 6:66. ② انبياء 20:12. ③ آل عمران 19:3. ④ السجدة 32:15,16.

أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمُنَزَّرَ“^① وَعَنْهَا قَالَتْ: ”كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ“^②

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب (رمضان کا) آخری عشرہ آتا تو نبی ﷺ اپنا تہبند مضبوط باندھ لیتے۔ آپ ان راتوں میں خود بھی شب بیداری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ انھی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ حتیٰ ممیت آخری عشرے میں کرتے تھے، اتنی کسی اور میں نہیں کرتے تھے۔

ایک دن یا ایک رات یا اس سے زیادہ جتنے دن چاہے اعتکاف کر سکتا ہے، مگر رمضان کے پورے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ پس جو شخص پورے عشرے کا اعتکاف کرنا چاہے وہ بیسویں رمضان کو دن کے آخری حصے میں آفتاب غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے مسجد میں پہنچ جائے۔ اور اکیسویں تاریخ کی رات مسجد میں گزارے اور مسجد کے جس گوشے میں اس کے لیے اعتکاف کی جگہ متعین کی گئی ہے، صبح کی نماز سے فارغ ہو کر اس جائے معینہ کو اعتکاف کے لیے اختیار کر لے۔

اعتکاف مرد و عورت اور نابالغ بھی کر سکتے ہیں، عورت کو اپنے شوہر کی اجازت حاصل کرنی ضروری ہے۔ اعتکاف اپنے شہر یا قصبہ کی جامع مسجد میں کرنا چاہیے۔ وَهُوَ مُخْتَارٌ عِنْدَ شَيْخِنَا الْعَلَمَةِ الْأَجَلِّ الشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُبَارَكْفُورِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي شَرْحِ التَّرْمِذِيِّ. عورت بھی مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے (جیسا کہ ازواج مطہرات مسجد نبوی میں معکف ہوئی تھیں) مگر اس کے لیے ان کے شوہر یا ذی محرم کی ضرورت ہے۔ ماحول کے خراب اور پرفتن ہونے کی وجہ سے علمائے حنفیہ کے نزدیک عورت کا مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے، ان کے نزدیک اسے اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔

① صحیح البخاری کتاب فضل لیلة القدر، باب العمل فی العشر الأواخر من رمضان:

2024، صحیح مسلم کتاب الاعتکاف، باب الاجتهاد فی العشر الأواخر ... : 1174 (2787).

② صحیح مسلم، کتاب الاعتکاف، باب الاجتهاد فی الأواخر ... : 1175 (2788).

کن امور سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا اور وہ جائز ہیں

مسجد گر جانے یا زبردستی مسجد سے نکال دیے جانے یا جان و مال کے خوف سے مسجد سے باہر نکل جانا، بشرطیکہ دوسری مسجد میں فوراً اچلا جائے۔ مسجد میں کسی دوسرے کو ضرورت کے وقت خرید و فروخت کی ہدایت کرنا، نکاح کرنا، عمدہ لباس پہننا، سر میں تیل لگانا، خوشبو استعمال کرنا، کوئی دوسرا کھانا لانے والا نہیں ہے تو خود گھر جا کر کھانا لانا، قضائے حاجت کے لیے قریب سے قریب جگہ جانا، غسل جنابت کے لیے مسجد سے باہر جانا، بعض روایتوں سے جامع مسجد کے علاوہ دوسری مسجد میں جہاں جماعت پانچ وقت نماز ہوتی ہو اعتکاف کرنے کا جواز نکلتا ہے، اس لیے جامع مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اس قدر پہلے جاسکتا ہے کہ خطبہ سے پہلے چار رکعت پڑھ سکے اور نماز فرض کے بعد اس قدر ٹھہر سکتا ہے کہ چار یا چھ رکعت سنت پڑھ سکے۔

ممنوعات اعتکاف

بیوی سے بوس و کنار اور صحبت کرنا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَا تَبَايَسُوا وَهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ﴾

”مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں بیویوں سے مباشرت وغیرہ نہ کرو۔“^①

جنازہ اٹھانے یا جنازہ کی نماز پڑھنے کے واسطے یا بیمار کی عیادت اور تیمارداری کے لیے مسجد سے نکلنا، ہاں اگر قضائے حاجت کے لیے معتکف مسجد سے باہر گیا اور راستے میں کوئی بیمار مل گیا تو اس سے چلتے چلتے حال پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔^②

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَبْعُودَ مَرِيضًا وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلَا يَمَسُّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرُهَا وَلَا يَخْرُجُ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بَدَأَ مِنْهُ.»

معتکف کے لیے سنت یہ ہے کہ کسی بیمار کی عیادت نہ کرے اور نہ جنازے میں حاضر ہو اور نہ عورت کو چھوئے اور نہ مباشرت و جماع کرے اور کسی ضروری حاجت

① البقرة 187:2. ② صحيح البخاري: 2029، صحيح مسلم: 297، وسنن ابن ماجه: 1776.

(بول و براز) کے علاوہ جائے اعتکاف سے نہ نکلے۔“^①

صدقہ فطر

ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ روزے دار، مجسم نیکی ہوتا ہے، اس کا جسم انسانی ہوتا ہے، مگر روح فرشتوں کی سی زندگی گزارتی ہے نہ وہ غیبت کرتا ہے نہ جہالت کے کام کرتا ہے مگر پھر بھی وہ معصوم نہیں ہے، اس سے غلطی اور لغزش ہو سکتی ہے۔ گناہ اور برائی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ زبان سے بیہودہ اور لغو باتیں نکل آتی ہیں۔ ظاہر ہے ایسی حالت میں روزہ ان عیوب اور نقصانات سے منزہ اور پاک نہیں رہے گا، اسی لیے رحمۃ اللعالمین ﷺ نے ہمارے روزوں کو ان نقصانات سے پاک صاف اور مقبول ہونے کے لیے ایک نہایت سہل صورت بتائی ہے جس کو اصطلاح شرع میں صدقہ فطر کہتے ہیں اور جو دیگر فرض کی طرح ایک فریضہ ہے۔

((صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ مُعَلَّقٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَرْفَعُ إِلَّا بِزَكَاةِ الْفِطْرِ))^②

”رمضان کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں اور جب تک صدقہ فطر نہ ادا کیا جائے مقبول نہیں ہوتے۔“

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللِّغْوِ وَالرَّفَثِ"

رسول اللہ ﷺ نے صدقہ فطر فرض کیا ہے، روزے دار کے روزے کو لغو اور نقش گوئی سے پاک اور صاف کرنے کے لیے۔^③

① سنن أبي داود كتاب الصيام، باب المعتكف يعمد المريض: 2473، وسنده صحيح، امام زهري نے سماع کی تصریح کر رکھی ہے۔ دیکھئے مسند الشاميين للطبراني: 128/4 (2910)۔ ② ضعيف، الترغيب والترهيب: 684 تحقیق علامہ البانی رحمہ اللہ، تفصیل کے لیے دیکھئے، السلسلة الضعيفة: 118، 117/1۔ ③ سنن أبي داود كتاب الزكوة باب زكوة الفطر: 1609، سنن ابن ماجه كتاب الزكوة، باب صدقة الفطر: 1827، وسنده حسن.

صدقہ فطر کس پر فرض ہے

صدقہ فطر کی فرضیت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب ہو بلکہ جس طرح ایک دولت مند پر فرض ہے، اسی طرح اس غریب پر بھی فرض ہے جس کے پاس عید کے دن اپنی اور اپنے اہل و عیال کی خوراک سے زائد اس قدر موجود ہو کہ ہر ایک کی طرف سے ایک صاع غلہ دے سکے، بلکہ غرباء کو دوسروں کے دیئے ہوئے غلہ سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((أَمَّا غَنِيَّتُكُمْ فَيَزِيْزِيْهِ اللهُ تَعَالَى وَ أَمَّا فَقِيْرُكُمْ فَيَزِيْدُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهُ))

”صدقہ فطر کے ذریعے سے اللہ غنی کو پاک صاف کرتا ہے اور غریب کو اس کے ساتھ جتنا اس نے دیا ہے، اس سے زیادہ واپس لوٹاتا ہے۔“^①

معلوم ہوا کہ صدقہ فطر امیر، غریب، مستطیع، غیر مستطیع سب پر فرض ہے، نیز حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

”فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكْوَةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.“

”رسول اللہ ﷺ نے صدقہ فطر ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو غلام، آزاد، مرد، عورت، نابالغ اور بالغ مسلمان پر فرض کر دیا ہے۔“^②

البتہ بیوی بچوں اور غلاموں کا صدقہ فطر مالک اور صاحب خانہ کو دینا ہوگا۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

”أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ

① ضعیف، سنن أبي داود كتاب الزكوة، باب من روى نصف صاع من قمح: 1619، ومسند أحمد 5/432، امام زہری کے حصعہ کی وجہ سے ضعیف ہے۔

② صحیح البخاری كتاب الزكوة، باب فرض صدقة الفطر: 1503.

وَالْعَبْدُ مِمَّنْ تَمُونُونَ“

”یعنی بالغ، نابالغ، آزاد، غلام کے نفقہ اور خرچ کا جو ذمہ دار ہو، اسے ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم فرمایا۔“^①

اگر بیوی بچے مکان پر نہ ہوں، بلکہ سفر میں ہوں تو ان کا صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہوگا۔ ہاں اگر کسی نابالغ لڑکی سے نکاح کیا ہے اور عدم بلوغ کے باعث رخصتی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے والدین کے ہاں ہے تو اس کا صدقہ فطر اس کے باپ کو ادا کرنا ہوگا۔ اور وہ عورت جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نافرمانی کر کے ماں باپ کے گھر چلی گئی ہو تو اس کا صدقہ فطر اس کے شوہر پر فرض نہیں ہے۔

صدقہ فطر صرف انہی لوگوں پر فرض نہیں جن پر روزے فرض ہیں بلکہ ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ بالغ ہو یا نابالغ، مرد ہو یا عورت جیسا کہ صحیحین کی احادیث سے معلوم ہو چکا ہے۔ آپ نے صدقہ فطر کو طعمیہ للمساکین (مساکین کی خوراک) فرمایا۔^② پس صدقہ فطر جس طرح روزے دار کی فحش کلامی اور بیہودہ گوئی کو دور کرنے کی حیثیت سے فرض کیا گیا ہے، اسی طرح مساکین کی خوراک ہونے کی حیثیت سے بھی فرض کیا گیا ہے، لہذا جو شخص عید کی صبح کو مسلمان ہو جائے یا جو بچہ عید کی صبح کو پیدا ہو، اس پر بھی صدقہ فرض ہے۔

صدقہ فطر کب ادا کرنا چاہیے

صدقہ فطر عید کی صبح کو عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ اگر عید کی نماز کے بعد ادا کیا گیا تو صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا اور صدقہ فطر کا ثواب بھی نہیں ملے گا، بلکہ مطلق صدقہ اور خیرات کے حکم میں ہو جائے گا۔

((فَمَنْ أَذَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَّقْبُولَةٌ وَمَنْ أَذَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ))

”جس نے صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کیا وہ صدقہ فطر مقبول ہوگا اور جس نے بعد

① ضعیف، سنن الدارقطنی: 2/140 ح 2059، اس کی سند میں دروای قاسم و عمیر مجہول ہیں۔ امام ذہبی نے فرمایا: ”إسناده لا یثبت“ (تنقیح التحقيق: 5/14). ② سنن أبی داود: 1609، وسنده حسن.

نماز ادا کیا تو وہ مطلق خیرات کے حکم میں ہو جائے گا۔“^①

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

”أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ“

”رسول اللہ ﷺ نے صدقہ فطر عید گاہ میں جانے سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا۔“^②

اگر کسی مقام میں بیت المال اور سرداری کا نظام موجود ہو اور یہ سردار زکوٰۃ و صدقہ خور سرداروں اور پیروں کی طرح نہ ہو بلکہ وہاں پر بیت المال اور سرداری کا نظام معاشرے کی اصلاح کے ساتھ زکوٰۃ، عشر، صدقہ الفطر وغیرہ کو ان کے مصارف مقررہ میں دیانت داری کے ساتھ تقسیم کرنے کے لیے ہو تو عید سے دو ایک دن پہلے اپنے اپنے صدقہ الفطر کو بیت المال میں بھیج دینا کہ وہاں جمع ہو کر مستحقین کو تقسیم کیا جائے شرعاً جائز ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق صحیح بخاری (1511) میں ہے:

”كَانَ يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَ كَانُوا يُعْطَوْنَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ بِيَوْمَيْنِ“^③

نیز ان کے بارے میں ہے کہ ”كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِبِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ“^④ آپ رضی اللہ عنہ جہاں صدقہ فطر جمع ہوتا وہاں عید الفطر سے دو یا تین دن پہلے ہی صدقہ فطر بھیج دیتے تھے۔ قَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ التَّرْمِذِيِّ: أَثَرُ ابْنِ عُمَرَ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ إِعْطَاءِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لِيَجْمَعَ لِلْفُقَرَاءِ كَمَا قَالَ وَ أَمَّا إِعْطَاؤُهَا قَبْلَ

① سنن أبي داود كتاب الزكوة، باب زكوة الفطر: 1609، سنن ابن ماجه كتاب الزكوة، باب صدقة الفطر: 1827، وسنده حسن. ② صحيح البخاري كتاب الزكوة، باب الصدقة قبل العيد: 1509، صحيح مسلم كتاب الزكوة، باب: الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة: 986 (2288). ③ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صدقة فطر براس فقير كودے دیتے جو اسے قبول کرتا اور لوگ صدقہ فطر ایک یا دو دن پہلے ہی دے دیا کرتے تھے۔ ④ موطأ إمام مالك: 632 وسنده صحيح.

الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لِلْفُقَرَاءِ فَلَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ انتھیں۔ ہمارے شیخ نے ترمذی کی شرح میں فرمایا: ”ابن عمر رضی اللہ عنہما کا اثر اس بات کی دلیل ہے کہ فقراء کے بجائے جہاں صدقہ فطر جمع ہوتا ہے وہاں عید الفطر سے ایک یا دو دن پہلے صدقہ فطر دینا جائز ہے، البتہ عید سے ایک یا دو دن پہلے براہ راست فقراء کو دینے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جمع شدہ صدقہ فطر عید کے دن مساکین و فقراء کو تقسیم کر دے تاکہ وہ اس دن سوال سے بے نیاز ہو جائیں اور شرعی مصلحت پوری ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ”كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَخْرُجَهَا قَبْلَ أَنْ نُصَلِّيَ فَإِذَا أَنْصَرَفَ قَسَمَهُ بَيْنَهُمْ“^①

صدقہ فطر کس قدر اور کن چیزوں سے دینا چاہیے

صدقہ فطر اس غلہ سے دینا چاہیے جو عام طور پر وہاں کے لوگوں کی خوراک ہو۔ اگر عام طور پر چاول کھایا جاتا ہے تو چاول دینا چاہیے، دس علی ہذا۔ اور بغیر فرق و امتیاز کے ہر جنس سے ایک صاع حجازی دینا چاہیے (وَهُوَ الْأَحْوَطُ عِنْدَ شَيْخَانَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ)^② لیکن وہ جنس گھٹیا نہیں ہونی چاہیے۔ صاع حجازی یعنی صاع نبوی کی تول انگریزی سیر سے مختلف غلوں کی مختلف ہوتی ہے، اس لیے تعین نہیں کی جاسکتی۔ پس جن لوگوں نے مطلقاً تین سیر یا چار سیر یا پونے تین سیر یا سوادو سیر لکھا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔^③

اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ کھجور، جو، پنیر اور منقی سے ایک صاع فی کس صدقہ فطر ادا کیا جائے، لیکن گیہوں میں اختلاف ہے کہ ایک صاع دینا چاہیے یا نصف صاع، گیہوں سے صدقہ فطر دینے کے بارے میں کوئی صحیح مرفوع حدیث ثابت نہیں ہے۔ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَافِظُ وَالشُّوكَانِيُّ وَالزَّيْلَعِيُّ وَعِزُّوهُمْ، ہاں اکثر صحابہ گیہوں سے نصف صاع دیئے جانے کے قائل تھے۔^④ البتہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تمام اجناس سے ایک صاع دینے کے قائل تھے۔^⑤

① فتح الباری: 3/375، وقال الحافظ: ”أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَ لَكِنْ أَبُو مَعَشَرٍ ضَعِيفٌ.“
 ② تحفة الأخوذی 3/401. ③ گندم کا ایک صاع کم دیش ڈھائی کلو کے برابر ہوتا ہے۔ ④ سنن أبي داود كتاب الزكوة باب كم يؤدى في صدقة الفطر؟: 1614 وسنده حسن. ⑤ صحيح البخاري كتاب الزكوة باب صدقة الفطر صاع من شعير: 1505، و صحيح مسلم كتاب الزكوة باب زكوة الفطر على المسلمين من التمر والشعير: 985 (2284).

اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ عہد نبوی میں مدینہ میں گیبوں تقریباً تھی ہی نہیں اور جب فتوحات اسلامی کا سلسلہ وسیع ہوا اور گیبوں مختلف مقامات سے آنے لگی یا صحابہ کا ایسے مقامات میں گزر ہوا جہاں گیبوں ہوتی تھی، لیکن اور اجناس کے مقابلہ میں گراں تھی تو صحابہ نے گیبوں کو گراں سمجھ کر قیمت کا خیال کر کے نصف صاع کافی سمجھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو صحابہ گیبوں سے نصف صاع کے قائل تھے انہوں نے قیمت کا لحاظ کیا اور حضرت ابن عمر اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما نے قیمت کا لحاظ نہیں کیا بلکہ صاع کی مقدار کا لحاظ کر کے بلا فرق و امتیاز ہر جنس سے ایک صاع ضروری سمجھا۔ وَبِهِ قَالَ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَاسْحَاقُ وَهُوَ الْأَحْوَطُ عِنْدَ شَيْبَةَ خَنْبَا۔ ہندوستان میں گیبوں کھجور سے سستی ہے۔ پس ہر شخص کو گیبوں سے بھی ایک صاع دینا چاہیے۔ ہاں اگر کسی کو ایک صاع دینے پر قدرت نہیں ہے تو نصف صاع دیدے۔

کیا صدقہ فطر میں سے یا قیمت یعنی نقد پیسہ دینا جائز ہے؟

آنحضرت ﷺ اور صحابہ کرام سے صدقہ فطر میں قیمت دینا ثابت نہیں۔ اس لیے بغیر عذر کے قیمت نہیں دینی چاہیے بلکہ عام طور پر کھائے جانے والے غلہ ہی سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ البتہ اگر حسب ضرورت غلہ نہ مل سکے تو بازار کے عام نرخ کے مطابق فطرہ میں قیمت نکالی جاسکتی ہے۔ صاحب حدائق الازہار کے قول وَ إِنَّمَا تُجْزَىٰ ۙ الْقِيَمَةُ لِلْعُذْرِ کی شرح میں علامہ شوکانی لکھتے ہیں: أَقُولُ هَذَا صَحِيحٌ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ بِتَعْيِينِ قَدْرِ الْفِطْرَةِ مِنَ الْأَطْعِمَةِ أَنْ إِخْرَاجَ ذَلِكَ مِمَّا سَمَّاهُ النَّبِيُّ ﷺ مُتَعَيِّنٍ۔ وَإِذَا عَرَضَ مَانِعٌ مِنْ إِخْرَاجِ الْعَيْنِ كَانَتْ الْقِيَمَةُ مُجْزِيَةً لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي يُمَكِّنُ مَنْ عَلَيْهِ الْفِطْرَةَ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ مَالًا يَدْخُلُ تَحْتِ إِمْكَانِهِ،^①

① السبل الجرار ج 2 ص 86 طبع القاہرہ.

امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز اور حسن بصری رضی اللہ عنہما جنس کے علاوہ نقدی سے بھی صدقہ فطر ادا کرنے کو جائز سمجھتے تھے۔ دیکھئے مصنف ابن ابی شیبہ: 3/174 (1036) وسندہ حسن، نیز دیکھئے مسائل عبداللہ بن احمد بن حنبل: 809، والسنن لابن قدامہ: 65/3، بہر صورت راجح اور افضل یہی ہے کہ اجناس مثلاً: گندم وغیرہ سے ہی صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ (ندیم ظہیر)

عید الفطر

عید الفطر کی رات شرف اور بزرگی کی رات ہے۔^① اس بارے میں کئی صحابہ سے روایتیں آئی ہیں جن کو حافظ عبد العظیم منذری نے اپنی تَرْغِيبِ میں ذکر کیا ہے۔ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے عید کے دن روزہ رکھنے کی نذر مانی تو وہ منعقد نہیں ہوگی۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ"

”سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فطر اور نحر کے دن،

یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔“^②

عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا: ((مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِيَهُ))

”جس شخص نے معصیت و نافرمانی کی نذر مانی وہ معصیت نہ کرے۔“^③

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مَرْفُوعًا: ((لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةٍ))

”جس شخص نے معصیت کی نذر مانی (اس پر) اس کا پورا کرنا (لازم) نہیں ہے۔“^④

زوال شمس کے بعد عید کا چاند دیکھنے کی شہادت

اگر مطلع ابراؤد ہونے کی وجہ سے چاند نہیں دیکھا گیا اور نہ کسی جگہ سے وقت پر شہادت پہنچی اور دن میں روزہ رکھ لیا، پھر اگر زوال سے پہلے معتبر شہادت مل جائے تو روزہ اسی وقت افطار کر دیا جائے لیکن عید کی نماز اس دن نہ پڑھی جائے۔ ابو عمیر انصاری اپنے کئی صحابی چچاؤں سے روایت کرتے ہیں کہ ابر کی وجہ سے شوال کا چاند نظر نہیں آیا، اس لیے ہم نے روزے کی حالت میں صبح کی، آخر دن میں چند سوار آئے اور نبی ﷺ کے سامنے شہادت دی کہ ہم نے چاند شام کو دیکھ لیا تھا ”فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفِطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَىٰ مُصَلَّاهُمْ“ آپ نے لوگوں کو افطار کا حکم دے دیا اور فرمایا کہ کل عید کی نماز کے لیے عید گاہ میں چلنا ہوگا۔^⑤

① اس سلسلے کی روایات سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں۔ دیکھئے سنن ابن ماجہ: 1782، وسندہ ضعیف، بلکہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلسلۃ الضعیفۃ: 5136، 521، میں اسے موضوع قرار دیا ہے۔ ② صحیح البخاری: 1991، صحیح مسلم: 1138. ③ صحیح البخاری: 6700، صحیح مسلم: 1641. ④ سنن أبی داود کتاب الصلاة، باب إذا لم یخرج الإمام للعيد من یومہ...: 1157، وسنن النسائی: 1558، وسندہ صحیح.

عید الفطر کے دن یہ امور مسنون ہیں

① غسل کرنا: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عید گاہ میں جانے سے پہلے غسل کر لیا کرتے تھے۔^①
ابن ماجہ، عبداللہ بن احمد اور بزار نے ابورافع و ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عید کے دن غسل کرنے سے متعلق حدیثیں روایت کی ہیں۔^② لکن کلھا ضعیف کما صرح بہ الحافظ فی الدراية.

② عمدہ سے عمدہ کپڑے پہننا: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عیدین میں بہترین کپڑے پہنتے تھے۔^③

③ بہترین خوشبو استعمال کرنا: قَالَ الْأَمِيرُ الْيَمَانِيُّ فِي سُبُلِ السَّلَامِ يُنْدَبُ لُبْسُ أَحْسَنِ الثِّيَابِ وَالتَّطَيُّبُ بِأَجْوَدِ الْأَطْيَابِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ لِمَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ النَّبَسِيِّ قَالَ: أَمَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِيدَيْنِ أَنْ نَلْبَسَ أَجْوَدَ مَا نَجِدُ وَأَنْ نَتَطَيَّبَ بِأَجْوَدِ مَا نَجِدُ“^④

④ بلند آواز سے عید گاہ جاتے ہوئے تکبیر پکارنا: عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا غَدَى يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى يَجْهَرُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى ثُمَّ يُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْإِمَامَ“^⑤

ایک حدیث میں ہے عیدین کو تکبیر کے ذریعے سے زینت دو۔^⑥

﴿لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ تاکہ اللہ کی بڑائی بیان کرو اس کی ہدایت پر۔ اس آیت

سے علماء نے تکبیر مذکور پر استدلال کیا ہے تکبیر کے الفاظ یہ ہیں۔

”اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ“

[یہ کلمات عیدین کے دنوں میں پڑھنے، کسی مرفوع یا مقوف حدیث سے ثابت نہیں ہیں،

① موطا امام مالک: 2/248، مسندہ صحیح. ② دیکھئے عبداللہ بن احمد (زوائد المسند): 4/78،

مسندہ موضوع، یوسف بن خالد کذاب ہے۔ سنن ابن ماجہ: 3115، 3116، والسنن الکبریٰ

للبيهقي: 3/278، جبارة متهم بالكذب ہے۔ ③ السنن الکبریٰ للبيهقي: 6143، مسندہ حسن. ④

المستدرک للحاکم: 4/256 (7560) مسندہ ضعیف، اسحاق بن بزرخ مجہول ہے۔ ⑤ السنن الکبریٰ

للبيهقي: 3/279، موقوفاً مسندہ حسن، سنن الداقتنی: 5/288 (1716). ⑥ المعجم الصغیر

للطبرانی: 599، الاوسط للطبرانی: 4/338 (4373) مسندہ ضعیف، عمر بن راشد ضعیف ہے۔

البتہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے درج ذیل تکبیرات کہنا ثابت ہے:

”اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَجَلُ اللَّهُ أَكْبَرُ،
وَلِلَّهِ الْحَمْدُ“^①

سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تکبیرات کے یہ کلمات سکھاتے تھے:

”اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ أَنْتَ أَعْلَى وَأَجَلُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ
صَاحِبَةٌ أَوْ يَكُونَ لَكَ وَلَدٌ أَوْ يَكُونَ لَكَ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ
أَوْ يَكُونَ لَكَ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكَبْرُهُ تَكْبِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ تَكْبِيرًا
(كَبِيرًا) اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا“^②

⑤ عید گاہ میں پیدل جانا: ”عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: ”مِنَ السَّنَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى
الْعِيدِ مَا شِئْنَا وَأَنْ تَأْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ“ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي
الْبَابِ أَحَادِيثَ أُخْرَى ضَعِيفَةً لِكِنَّهَا يَعْتَضِدُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ“
سیدنا علی رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا: ”سنت میں سے ہے کہ عید کیلئے پیدل جایا جائے
اور جانے سے پہلے کچھ کھالیا جائے۔“^③

⑥ ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا: ”كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا
خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ رَجَعَ فِي غَيْرِهِ“
رسول اللہ ﷺ عید کے دن ایک راستے سے جاتے اور دوسرے سے واپس آتے تھے۔^④
راستہ بدلنے کی بیس سے زیادہ حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ ظاہری حکمت اسلام کی قوت اور
شوکت کا اظہار ہے۔

⑦ طاق کھجوریں یا چھوہارے کھا کر عید گاہ جانا چاہیے۔ اگر یہ نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھالے۔ حضرت

① المصنف لابن أبي شيبة: 2/168 (5654) وسنده صحيح. ② المصنف لعبد الرزاق: 295/11 (2058) وسنده صحيح، و السنن الكبرى للبيهقي: 3/316. ③ سنن الترمذی: 530،
وسنن ابن ماجه: 1296، وسنده ضعيف، حارث العور حث ضعيف ہے۔ ④ صحيح، سنن الترمذی،
541، سنن ابن ماجه: 1301.

انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَغْدُو وَيَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمْرَاتٍ وَيَأْكُلَهُنَّ وَتَرًا“

رسول اللہ ﷺ عید الفطر کے دن کھجوریں کھائے بغیر نہیں نکلتے تھے اور آپ طاق کھجوریں کھاتے تھے۔^①

عورتوں کا عیدین کی نماز کے لیے عید گاہ جانا

عورتوں کا عید گاہ میں عید کی نماز کے لیے جانا سنت ہے۔ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، جوان ہوں یا ادھیڑ عمر بوڑھی۔

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُخْرِجُ الْأَبْكَارَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَالْحَيْضِ فِي الْعِيدَيْنِ فَأَمَّا الْحَيْضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى وَيَشْهَدْنَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ قَالَتْ إِحْدَهُنَّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ: «فَلْتَعْرِهَا أُخْتَهَا مِنْ جِلْبَابِهَا»

رسول اللہ ﷺ عیدین میں دوشیزہ، جوان کنواری اور حیض والی عورتوں کو عید گاہ جانے کا حکم دیتے تھے۔ حیض والی عورتیں جائے نماز سے الگ رہتیں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک رہتیں ایک عورت نے عرض کیا: اگر کسی عورت کے پاس چادر نہ ہو تو؟ آپ نے فرمایا: ”اس کی مسلمان بہن اپنی چادر میں لے جائے۔“^②

جو لوگ کراہت کے قائل ہیں یا جوان اور بوڑھی کے درمیان فرق کرتے ہیں، درحقیقت وہ صحیح صریح حدیث کو اپنی فاسد اور باطل رایوں سے رد کرتے ہیں۔

حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اور ابن حزم نے اپنی محلی میں بالتفصیل مخالفین کے جوابات ذکر کئے ہیں۔ ہاں عورتوں کو عید گاہ میں سخت پردہ کے ساتھ بغیر کسی قسم کی خوشبو لگائے اور بغیر بجنے والے زیوروں اور زینت کے لباس کے جانا چاہیے تاکہ فتنہ نہ بنیں۔

① صحیح البخاری: 953.

② سنن الترمذی: 539 واللفظ له، صحیح البخاری: 351، صحیح مسلم: 89.

عید کی نماز صحراء یعنی کھلے میدان میں پڑھنی چاہیے

عید کی نماز قصبہ یا شہر یا گاؤں سے باہر صحراء، یعنی کھلے میدان میں ادا کرنا سنت ہے اور بغیر عذر کے مسجد میں یا چار دیواری گھر کر مسجد کی صورت بنا کر احاطہ میں ادا کرنا خلاف سنت ہے۔ نبی کریم ﷺ کا مصلیٰ (عید گاہ) صحراء میں تھا جس کو جبنا نہ کہتے ہیں۔ آپ نے صرف ایک دفعہ بارش کے عذر کی وجہ سے مسجد نبوی میں عید کی نماز پڑھی تھی^① اور مسجد نبوی کے اشرف مواضع اور افضل بقاع ہونے بلکہ اس کے بعض حصہ کے روضۃ من ریاض الجنۃ ہونے کے باوجود بغیر عذر کبھی اس میں نماز عید نہیں ادا فرمائی۔

عید کی نماز

عید کی نماز سنت موکدہ ہے، آپ نے کبھی اس نماز کو ترک نہیں فرمایا۔ جب آفتاب طلوع ہو کر روشنی پھیل جائے تو عید کی نماز کا اول وقت ہو گیا، یعنی اشراق کا وقت عید کی نماز کا اول وقت ہے اور قبل زوال شمس تک اس کا وقت باقی رہتا ہے۔

نماز عید کے لیے اذان ہے نہ اقامت: عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: "صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِنِغْيَرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ"^② نماز سے پہلے یا بعد میں عید گاہ میں سنت یا نفل پڑھنے کا ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح نماز سے پہلے خطبہ اور وعظ کا بھی ثبوت نہیں ہے، اور نہ عید گاہ میں منبر لیجانے کا ہی ثبوت ہے۔ نماز سے پہلے خطبہ اور وعظ کہنا اور عید گاہ میں منبر لے جانا بدعت ہے۔ نماز عیدین سے پہلے اور بعد میں کوئی سنت نماز نہیں ہے نہ عید گاہ میں نہ گھر پر۔^③

① اسنادہ ضعیف، سنن أبي داود: 1160، سنن ابن ماجه: 1313، صحیح ابن عبدالعلیٰ جمہول ہے۔ ترمذی: امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "اے لوگو! بلا شہر رسول اللہ ﷺ لوگوں کو عید گاہ لے جاتے تاکہ انہیں نماز پڑھ سکیں۔ یہ بات زیادہ آسان اور وسعت دہی تھی اور (چونکہ) مسجد میں وہ لوگ سانس نہیں سکتے تھے۔ پس اگر بارش ہو تو مسجد میں (عید کی) نماز پڑھ لو، یہ زیادہ آسان بات ہے۔" السنن الکبریٰ للبیہقی: 310/3 وسندہ حسن. ② صحیح مسلم: 887. ③ مذکورہ بحث کے دلائل کے لیے دیکھئے: صحیح مسلم: 177/49، وسنن أبي داود: 1140، وسنن الترمذی: 2172، وسنن النسائی: 5024، 5023. صحیح البخاری: 963، صحیح مسلم: 2052/888، صحیح البخاری: 964، صحیح مسلم: 884، سنن ابن ماجه: 1291 وغیرہ.

عید کی نماز کا طریقہ

دل میں نیت کر کے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک (یا کندھوں کے برابر) اٹھا کر تکبیر تحریرہ (اللہ اکبر) کہہ کر ہاتھوں کو سینے پر باندھ لے، پھر سات مرتبہ **اللَّهُ أَكْبَرُ** کہے، پھر **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ يَا اللَّهُمَّ يَا اللَّهُمَّ يَا اللَّهُمَّ** پکار کر رکوع میں جائے اور حسب دستور رکوع اور سجدوں سے فارغ ہو کر تکبیر پکارتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے، پھر پانچ مرتبہ **اللَّهُ أَكْبَرُ** کہے پھر سورہ فاتحہ پڑھے اور امام اس کے بعد سورہ اعلیٰ یا حسب دستور رکوع سجدہ اور قعدہ کر کے سلام پھیر دے۔

معلوم ہوا کہ عید کی نماز دو رکعت ہے اور اس کی پہلی رکعت میں تکبیر تحریرہ کے علاوہ قرأت فاتحہ سے پہلے سات تکبیریں کہی جائیں گی اور دوسری رکعت میں تکبیر قیام کے علاوہ قرأت سے پہلے پانچ تکبیریں کہی جائیں گی۔^① **هذا هو الحق كما بينه شيخنا في شرح الترمذی وفي رسالته القول السدید**

اور تکبیر زوائد کے ساتھ رفع الیدین کا ثبوت کسی مرفوع صحیح حدیث سے نہیں ہے۔^② ہاں حضرت عبد اللہ بن عمر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما تکبیر زوائد کے ساتھ رفع الیدین کرتے تھے۔ پس اگر کوئی ان کی اتباع میں رفع الیدین کرے تو کر سکتا ہے۔

عید کا خطبہ

عید کی نماز کے بعد خطبہ اور وعظ کہنا سنت ہے امام کو چاہیے کہ مردوں کو خطبہ سنانے کے بعد عورتوں کے مجمع کے پاس پردے کا اہتمام کر کے ان کو بھی وعظ و نصیحت کرے اور صدقہ و خیرات پر براہیختہ کرے۔

بعض ائمہ کے نزدیک عید کا خطبہ سننا ضروری ہے۔ سنت کے مطابق خطبہ سن کر واپس ہونا

① سنن أبي داود: 1101 وسنده حسن. ② سنن أبي داود: 722، ابن جارد: 178، وسنده صحيح، اس مرفوع حدیث سے تکبیرات عیدین میں رفع الیدین کا ثبوت ملتا ہے، البتہ تکبیرات عیدین میں رفع الیدین کرنا چاہیے۔

چاہیے۔ امام کو چاہیے کہ سامعین کی زبان میں صدقہ و خیرات اتفاق و اتحاد اور اخلاص وغیرہ پر برا بیخیزہ کرنے کے علاوہ اہم اور ضروری وقتی مسائل اور ضروریات پر خطبہ سنائے۔

عیدین کے لیے جمعہ کی طرح دو خطبہ دینا کسی معتبر مرفوع حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ دو خطبوں کے ثبوت میں تین روایتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ ایک حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی جو ابن ماجہ میں مروی ہے۔^① دوسری حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی جو مسند بزار میں مروی ہے۔^②

تیسری حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح ذکر کیا ہے۔ وَرَوَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْطُبَ فِي الْعِيدَيْنِ خُطْبَتَيْنِ فَيَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ» لیکن یہ تینوں روایتیں غیر ثابت ہیں۔ اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: «لَمْ يَنْبَغُ فِي تَكَرُّرِ الْخُطْبَةِ شَيْءٌ وَلَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ فِيهِ الْقِيَاسُ عَلَى الْجُمُعَةِ أَنْتَهَى» تفصیل مرعاۃ ج 2 ص 33 میں ملاحظہ کی جائے۔

مذکورہ بالا روایتوں اور جمعہ پر قیاس کی بنا پر دو خطبے دیے جائیں تو جائز ہے۔^③

شش عیدی روزے

رمضان کے روزے پورے کرنے کے بعد عید کے متصل ہی یا دو چار روز کے بعد شوال ہی کے مہینے میں پے در پے یا ناغہ کر کے چھ روزے رکھنے سے سال بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔
عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اتَّبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: «جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے، پھر شوال کے بھی چھ روزے رکھے تو وہ سال بھر کے روزے رکھنے کی طرح ہے۔»^④

سال بھر کے روزوں کا ثواب ملنے کی وجہ یہ ہے کہ قانون الہی ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرٌ مِمَّا لَهَا﴾ کے مطابق ایک نیکی کا ثواب دس نیکیوں کے برابر ملتا ہے تو رمضان کے تیس روزوں کا ثواب تین سو دن کا ثواب ہوگا۔ گویا تیس روزے قائم مقام دس مہینے کے روزوں کے

① سنن ابن ماجہ: 1289 وهو منكر. ② مسند البزار: 321/3 وسنده ضعيف. ③ چونکہ عیدین میں دو خطبے ثابت نہیں، لہذا ایک ہی خطبہ دینا چاہیے۔ ④ صحیح مسلم: 1164.

ہوئے اور تیس روزے رکھنے سے دس مہینے کے روزوں کا ثواب ملا۔ اب اسی قانون الہی کے مطابق شش عیدی روزے ساٹھ روزوں کے قائم مقام ہوئے اور چھ روزوں سے دو مہینے کے روزوں کا ثواب ملا۔ معلوم ہوا کہ رمضان اور شش عیدی روزوں سے سال بھر کے روزوں کا ثواب مل جاتا ہے۔

پس مسلمانو! اس اجر عظیم کو حاصل کرنے کے لیے رمضان کے بعد یہ چھ روزے رکھنے کی پوری کوشش اور سعی کرو۔ اگرچہ امام ابوحنیفہ اور امام مالک کے نزدیک شش عیدی روزے مکروہ ہیں مگر عام متاخرین حنفیہ کے نزدیک مکروہ نہیں ہیں اور ان روزوں کے رکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ (عالمگیری)



صحیح الاقوال فی استحباب صیام ستہ من شوال

[شوال کے چھ روزے صحیح و صریح احادیث سے ثابت ہیں لیکن بعض حضرات کی طرف سے شوال کے چھ روزوں پر اعتراضات کیے جاتے ہیں جن کا مدلل و مسکت جواب محدث العصر حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، لہذا اسے اہم فائدہ جانتے ہوئے یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ دراصل ”حسن المقال فی کراہیۃ صیام ستہ شوال“ (شوال کے چھ روزوں کے مکروہ ہونے کی تحقیق) نامی کتابچے کا جواب ہے۔ شیخ محترم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتابچے میں بیان کردہ ضعیف و مردود روایات کا جائزہ اور صاحب تحریر کے تمام اعتراضات کے جوابات ترتیب وار نقل کر دیے ہیں جس سے ہر قاری حقیقت حال سے آگاہ ہو جائے گا۔ ان شاء اللہ]

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الامين ،
أما بعد:

سیدنا ابویوب الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِنًا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ))^①
جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد اس نے شوال کے چھ روزے رکھے تو یہ ہمیشہ روزے رکھنے (کے ثواب) کی طرح ہیں۔

اس حدیث کو درج ذیل اماموں نے صحیح قرار دیا ہے:

(1) امام مسلم (2) امام ابن خزیمہ (3) امام ترمذی (4) حافظ ابوعوانہ

(5) حافظ ابن حبان (6) حافظ حسین بن مسعود البغوی رحمۃ اللہ علیہ۔

میرے علم کے مطابق کسی امام سے اس روایت کو ضعیف قرار دینا ثابت نہیں ہے۔

① صحیح مسلم: 1164، دارالسلام: 2758، صحیح ابن خزیمہ: 2114، صحیح ابن حبان: 3634/3626، صحیح ابی عوانہ: القسم المفقود ص: 95،94، سنن الترمذی: 759، وقال: ”حدیث حسن صحیح“ شرح السنة للبغوی: 331/6 ح 1780، وقال: ”هذا حدیث صحیح“.

اب اس حدیث کے راویوں کا مختصر و جامع تذکرہ پیش خدمت ہے:

1: سیدنا ابویوب خالد بن زید الانصاری رضی اللہ عنہ مشہور بدری صحابی ہیں جو (دور صحابہ کے آخری)

غزوہ تھظنہ میں 50ھ یا اس کے بعد فوت ہوئے۔

2: عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجی الانصاری المدنی رضی اللہ عنہ۔

حافظ ابن حبان نے آپ کو کتاب الثقات (149/5) میں ذکر کیا۔ امام علی نے کہا: مدنی تابعی

ثقة (تاریخ العجل ی: 1333) ابن شاپین نے انھیں کتاب اسماء الثقات (693) میں ذکر

کیا۔ امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن خزیمہ، حافظ ابو عوانہ اور حافظ بغوی نے ان کی حدیث کو صحیح

قرار دے کر ان کی توثیق کی ہے۔

حافظ ابن حجر نے کہا: ثقة۔^①

فائدہ:..... اگر کوئی محدث کسی حدیث کو (مطلقاً) صحیح کہے تو یہ اس کی طرف سے اس حدیث

کے ہر راوی کی توثیق ہوتی ہے۔

1: ابن القطان الفاسی (متوفی 628ھ) لکھتے ہیں:

”وفي تصحيح الترمذي إياه توثيقها و توثيق سعد بن إسحاق

ولا يضر الثقة أن لا يروي عنه إلا واحد، والله أعلم“

اس حدیث کو ترمذی کا صحیح کہنا اس (زینب بنت کعب) اور سعد بن اسحاق کی توثیق

ہے۔ ثقہ کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا کہ اُس سے روایت کرنے والا صرف ایک

ہے۔ واللہ اعلم^②

2: تقي الدين بن دقيق العيد نے کتاب الامام میں کہا: ”وأي فرق بين أن يقول:

هو ثقة أو يصحح له حديث انفرده“ اس میں کیا فرق ہے کہ راوی کو ثقہ

کہے یا اس کی منفرد حدیث کو صحیح کہے۔^③

① تقریب التہذیب: 4780. ② بیان الوهم والابہام فی کتاب الاحکام ج 5 ص 395 ح 2562،

نصب الراية للزبيلى: 264/3. ③ نصب الراية ج 1 ص 149.

جمہور کی اس توثیق کے مقابلے میں عمر بن ثابت تابعی رحمہ اللہ پر کسی محدث کی جرح ثابت نہیں ہے اور اگر ایک دو سے جرح ثابت بھی ہو جاتی تو جمہور کی توثیق کے مقابلے میں مردود تھی۔

تنبیہ نمبر 1: عمر بن ثابت نے یہ روایت سیدنا ابویوب رضی اللہ عنہ سے سنی ہے۔^①
تنبیہ نمبر 2: محمد زرولی دیوبندی تقلیدی نے بغیر کسی دلیل کے لکھا ہے: ”اور طبرانی کی روایت میں عمر بن ثابت ہے اور وہ ضعیف ہے۔“^②

زرولی تقلیدی کا یہ قول امام مسلم، امام عقی اور امام ترمذی وغیرہم کی توثیق کے مقابلے میں مردود ہے۔

زرولی نے روایت مذکورہ کے بارے میں لکھا ہے: ”جبکہ خود امام ترمذی نے اس کو صحیح کے بجائے صرف حسن درجہ کا تسلیم کیا ہے۔“^③ حالانکہ امام ترمذی نے ”حدیث ابی ایوب حدیث حسن صحیح“ لکھا ہے۔^④

سنن ترمذی کے بعض نسخوں میں حسن کا لفظ بھی ہے۔ واللہ اعلم
عمر بن ثابت رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث درج ذیل راویوں نے بیان کر رکھی ہیں:

- 1: سعد بن سعید بن قیس۔^⑤
- 2: صفوان بن سلیم۔^⑥
- 3: زید بن اسلم۔^⑦
- 4: یحییٰ بن سعید بن قیس الانصاری۔^⑧

سعد بن قیس مختلف فیہ راوی ہیں، امام احمد بن حنبل، امام یحییٰ بن معین اور امام نسائی وغیرہ نے

① دیکھئے صحیح مسلم: 1164 (2759، 2760)۔ ② احسن المقال فی کراہیۃ صیام ستہ شوال ص 26۔ ③ احسن المقال ص 25۔ ④ دیکھئے سنن الترمذی مع العرف الشذی (ص 158 ج 1) دوسرا نسخہ (ج 1 ص 94) معارف السنن (ج 5 ص 444) تحفۃ الاحوذی (ج 2 ص 59)۔ ⑤ صحیح مسلم: 2758/1164، سنن الترمذی: 759 وقال: ”حسن صحیح“ صحیح ابن خزیمہ: 2114، صحیح ابن حبان: 3634، شرح السنۃ للبیہقی: 1780، وقال: ”هذا حدیث صحیح“ وغیرہ۔ ⑥ مسند الحمیدی بتحقیقی: 383، نسخہ دیوبند یہ: 380۔ ⑦ مشکل الآثار للطحاوی: 2343۔ ⑧ مسند الحمیدی: 382، مشکل الآثار: 2346۔

اُن پر جرح کی ہے لیکن امام مسلم، امام عجل، ابن سعد، ابن عدی، ابن حبان اور امام ابن خزمیرہ وغیرہ جمہور نے اُن کی توثیق کی ہے۔

حافظ ذہبی لکھتے ہیں: ”أحد الثقات“ وہ ثقہ راویوں میں سے ایک ہیں۔^①
ایسا راوی جس کی جمہور محدثین نے توثیق کی ہو وہ حسن الحدیث کے درجے سے کم نہیں ہوتا لہذا سعد بن سعید بن قیس حسن الحدیث ہیں۔

تین ثقہ راویوں نے ان کی متابعت کر رکھی ہے:

صفوان بن سلیم (ثقة مفتی عابد، رمی بالقدر) زید بن اسلم (ثقة عالم) اور یحییٰ بن سعید الانصاری (ثقة ثبت) لہذا سعد بن سعید پر تفرّد کا الزام باطل ہے۔

صفوان بن سلیم کی روایت درج ذیل کتابوں میں صحیح سند سے موجود ہے: مسند الحمیدی (بتحقیقی: 383 و سندہ صحیح) سنن ابی داود (2433) السنن الکبریٰ للنسائی: (2/163 ح 2863) سنن الدارمی: (1761) صحیح ابن خزمیرہ: (2114) صحیح ابن حبان (الاحسان: 3634/3626) شرح مشکل الآثار للطحاوی: (6/123 ح 2344) المعجم الکبیر للطبرانی: (4/135، 136 ح 3911)

صفوان بن سلیم کے شاگرد عبد العزیز بن محمد الدر اور دی جمہور محدثین کے نزدیک ثقہ و صدوق اور صحیح مسلم کے راوی ہیں۔ سنن ابی داود (353) کی ایک روایت کو حافظ ابن حجر نے حسن قرار دیا ہے جس میں در اور دی ہیں اور نیوی تقلیدی نے آثار السنن (908 حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما) میں اسے نقل کر کے خاموشی اختیار کی ہے۔

حافظ ابن حبان اور امام ابن معین وغیرہما نے ان کی توثیق کی ہے۔

معتدل امام عجلیؑ نے فرمایا: ”مدنی ثقة“^②

① سیر اعلام النبلاء: 5/482. @ التاريخ للعجلی: 1114.

زید بن اسلم کی روایت درج ذیل کتاب میں صحیح سند سے موجود ہے: شرح مشکل

الآثار (2343 وسندہ صحیح)

اس میں عبدالعزیز بن محمد الدر اور دی ثقف صدوق ہیں، ان کے شاگرد سعید بن منصور ثقہ حافظ ہیں اور ان کے شاگرد یوسف بن یزید بن کامل القراطیسی ثقہ ہیں۔^①

یحییٰ بن سعید بن قیس الانصاری کی روایت درج ذیل کتابوں میں حسن سند سے موجود ہے: السنن الكبرى للنسائی: (2866 وقال: "عتبه هذا ليس بالقوى") مشکل الآثار (2346) المعجم الكبير للطبرانی (136/4 ح 3915) مسند الحمیدی (384)

یحییٰ بن سعید الانصاری سے یہ حدیث دور او یوں نے بیان کی ہے:

1: عبد الملك بن ابی بکر (بن عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام) ثقہ ہیں۔^②

دیکھئے: السنن الكبرى للنسائی (2866 وتكلم في عتبه بن ابي حكيم)

عبد الملك بن ابی بکر سے یہ حدیث عتبہ بن ابی حکیم نے بیان کی ہے۔

عتبہ بن ابی حکیم مختلف فیہ راوی ہیں لیکن جمہور محدثین نے ان کی توثیق کی ہے، لہذا ان پر امام نسائی کی جرح صحیح نہیں ہے۔

تحریر تقریب التہذیب میں لکھا ہوا ہے:

”بل: صدوق حسن الحدیث....“

بلکہ وہ صدوق حسن الحدیث ہیں۔ (429/2 ت 4427)

لہذا یہ سند حسن ہے۔

2: اسماعیل بن ابراہیم (بن میمون) الصائغ^③

حافظ ابن حبان نے اس کی توثیق کی ہے لیکن صاحب لسان نے امام بخاری سے ”سکتوا عنہ“ (یہ متروک ہے) کی جرح نقل کی ہے۔ دیکھئے لسان المیزان (391/1)، دوسرا نسخہ (601/1) یہ جرح امام بخاری سے باسند صحیح ثابت نہیں ہے۔ مثلاً دیکھئے التاریخ الکبیر (341/1) اسماعیل بن ابراہیم سے ایک جماعت نے روایت بیان کی ہے اور ابو حاتم الرازی نے

① دیکھئے تقریب التہذیب: 7893. ② تقریب التہذیب: 4167. ③ مسند الحمیدی: 384.

کہا: ”شیخ“،^①

خلاصہ یہ ہے کہ یہ راوی مجہول الحال ہے، لہذا یہ سند ضعیف ہے لیکن شواہد کے ساتھ حسن صحیح ہے۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ سیدنا ابویوب الانصاری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث جس میں شوال کے چھ روزوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، بلحاظ صحیح ہے۔

دوسری حدیث: سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((صیام شہر بعشرة أشهر وستة أيام بعد هن بشهرين فذلك تمام سنة...))

یعنی شہر رمضان و ستة أيام بعده.

رمضان کے روزے دس مہینوں کے برابر ہیں اور اس کے بعد چھ روزے دو مہینوں کے برابر ہیں، اس طرح سے پورے سال کے روزے بنتے ہیں۔^②

اس حدیث کو ابن خزیمہ اور ابن حبان وغیرہما نے صحیح قرار دیا ہے۔ اب اس کے راویوں کا تذکرہ پیش خدمت ہے:

1: سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں۔

2: ابواسماء عمرو بن مرشد الرجبی صحیح مسلم کے راویوں میں سے اور ثقہ ہیں۔^③

3: یحییٰ بن الحارث الذماری ثقہ ہیں۔^④

4: یحییٰ بن حمزہ بن واقد الحضرمی دمشقی القاضی صحیحین کے راوی اور ”ثقة زمی بالقدر“ ہیں۔^⑤

جمہور محدثین کے نزدیک ثقہ راوی پر قول راجح میں زمی بالقدر والی جرح مردود ہوتی ہے۔

① العرج والتعديل: 152/2. ② سنن الدارمی: 1762 وسندہ صحیح، سنن ابن ماجہ: 1715، صحیح ابن خزیمہ: 2115، صحیح ابن حبان: 3635، السنن الكبرى للنسائی: 2861، مسند احمد 280/5، وغیرہ) ③ دیکھئے تقریب التهذيب: 5109. ④ تقریب التهذيب: 7522. ⑤ دیکھئے تقریب التهذيب: 7536.

5: یحییٰ بن حسان التمیمی صحیحین کے راوی اور ثقہ ہیں۔^①

معلوم ہوا کہ یہ سند صحیح ہے لہذا اس کے ساتھ سیدنا ابویوب رضی اللہ عنہ والی حدیث اور بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ والحمد للہ

ان دو حدیثوں سے ثابت ہو گیا ہے کہ شوال کے چھ روزے رکھنا بڑے ثواب کا کام ہے اور زرولی دیوبندی تقلیدی کا انھیں ضعیف قرار دینا اور شوال کے چھ روزوں کو مکروہ سمجھنا باطل و مردود ہے۔

امام نسائی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن عبدربه بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال: من صام شهر رمضان ثم أتبعه ستة أيام من شوال فكأنما صام السنة كلها“

ابوایوب الانصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جو شخص رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد

شوال کے چھ روزے رکھے تو گویا اس نے سارا سال روزے رکھے۔^②

اس موقوف روایت کی سند صحیح ہے۔ عبدربہ بن سعید بن قیس ثقہ اور صحیحین کے راوی

ہیں۔ دیکھئے تقریب التہذیب (3786) اور ان تک سند صحیح ہے۔

معلوم ہوا کہ مرفوع حدیث کے ساتھ ان روزوں کی فضیلت آثار صحابہ سے بھی ثابت ہے۔

تنبیہ نمبر 1: سارا سال روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آدی کو سارا سال روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔

تنبیہ نمبر 2: شوال کے چھ روزوں کو مکروہ یا ممنوع سمجھنا امام ابوحنیفہ سے باسند صحیح ثابت نہیں ہے۔ زرولی دیوبندی نے فقہ کی کتابوں سے جو کچھ نقل کیا ہے وہ بے سند ہونے کی وجہ سے

① دیکھئے تقریب التہذیب: 7529. ② السنن الكبرى للنسائي: 2/164, 163, 2865.

مردود ہے۔

تنبیہ نمبر 3: امام مالک نے مؤطا امام مالک میں فرمایا ہے کہ انہوں نے علماء و فقہاء میں سے کسی کو یہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا اور علماء اسے مکروہ سمجھتے ہیں الخ (ج 1 ص 311 تحت ح 699) یہ قول اس کی دلیل ہے کہ امام مالک تک درج بالا دونوں صحیح حدیثیں اور سیدنا ابویوب الانصاری رضی اللہ عنہ کا فتویٰ نہیں پہنچا ورنہ وہ کبھی یہ الفاظ نہ بیان فرماتے۔ جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو اس کے مقابلے میں ہر امام کا فتویٰ مردود ہوتا ہے چاہے وہ کتنا ہی بڑا امام ہو۔ سرفراز خان صفدر دیوبندی تقلیدی نے کیا خوب لکھا ہے کہ ”مسند مرفوع اور صحیح حدیث کے مقابلہ میں دس ہزار تو کیا دس لاکھ بلکہ دس ارب و کھرب حضرات کی بات بھی کوئی وقعت نہیں رکھتی کیونکہ علمی قاعدہ تو یہ ہے کل احد یؤخذ عنہ ویترک الا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم“^①



① اتمام البرہان فی رد تو ضیح البیان، ص: 389.

رمضان المبارك فضائل الأحكام

